آپ بیتی

خان عبدالغفار خان

Marfat.com

آپ بیتی

خان عبدالغفار خاں

فکشن ہاؤس
۱۸۔ مزنگ روڈ، لاہور

Marfat.com

81298

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : آپ بیتی

مصنف : خان عبدالغفار خان

پبلشرز : فکشن ہاؤس

18-مزنگ روڈ، لاہور

فون:7249218-7237430

اہتمام : ظہور احمد خاں

کمپوزنگ : فکشن کمپوزنگ اینڈ گرافکس، لاہور

پرنٹرز : حاجی حنیف پرنٹرز، لاہور

سرورق : عباس

اشاعت : 2004ء

قیمت : -/130روپے

Marfat.com

ترتیب

پہلا باب	آتمان زئی ـــــ میرا گاؤں	۸
دوسرا باب	پشتونستان ـــ آریاؤں کا پہلا مسکن	۱۲
تیسرا باب	فوجی نوکری کا شوق	۱۵
چوتھا باب	نام نہاد ملّا و رانگریز گٹھ جوڑ	۱۹
پانچواں باب	خلق خدا کی خدمت کا آغاز	۲۳
چھٹا باب	شیخ لنڈ سے ملاقات	۲۷
ساتواں باب	ولی خان کی پیدائش	۳۳
آٹھواں باب	پشاور جیل میں	۳۵
نواں باب	جیل سے رہائی اور دوبارہ گرفتاری	۳۹
دسواں باب	امان اللہ خان سے ملاقات	۴۳
گیارہواں باب	انجمن اصلاح الافاغنہ کا قیام	۴۷
بارہواں باب	جیل کے دن اور جیل کی راتیں	۵۱
تیرہواں باب	ڈیرہ غازی خان جیل منتقلی	۵۹
چودھواں باب	ولی اور غنی کی میری رہائی کے لئے تحریک	۷۱
پندرہواں باب	والدہ کا انتقال	۷۳
سولہواں باب	سردار کھرٹ سنگھ ایک زبردست انسان	۷۵
سترہواں باب	دوسری بیوی کا انتقال	۸۱
اٹھارہواں باب	"پشتون" کا اجراء	۸۵
انیسواں باب	مولانا محمد علی جوہر سے ملاقات	۸۹
بیسواں باب	خدائی خدمت گار تحریک کا آغاز	۹۱
اکیسواں باب	گجرات جیل ـــــ زندگی کے شاندار لمحات	۹۹
بائیسواں باب	ولی خان سنگین کے وار سے بچ گیا	۱۰۳

Marfat.com

تیسواں باب	مسلم لیگ سے رابطہ اور ناکامی	۱۰۷
چوبیسواں باب	کانگرس کے ساتھ الحاق	۱۰۹
پچیسواں باب	رب نواز خان کی بہن کی بہادری کا قصہ	۱۱۳
چھبیسواں باب	پٹھانوں کی دنیا آٹھ حصوں میں تقسیم تھی	۱۱۵
ستائیسواں باب	گجرات جیل سے رہائی	۱۱۹
اٹھائیسواں باب	قاتلانہ حملہ	۱۲۳
انتیسواں باب	گاندھی جی سے ملاقات	۱۲۹
تیسواں باب	مسٹر نہرو سے ملاقات	۱۳۵
اکتیسواں باب	عدم تشدد تحریک ــــ پٹھانوں میں مقبولیت	۱۳۹
بتیسواں باب	تین سال ہزاری باغ جیل میں	۱۴۳
تنتیسواں باب	رہائی کے بعد کلکتہ آمد	۱۴۹
چونتیسواں باب	ایک بار پھر قید تنہائی	۱۵۱
پنتیسواں باب	سرحد اسمبلی کے انتخابات	۱۵۵
چھتیسواں باب	صوبہ سرحد میں ستیہ گرہ کی تحریک	۱۵۷
سنتیسواں باب	پٹھانوں میں اتحاد کی کوشش	۱۶۳
اڑتیسواں باب	ہری پور جیل میں	۱۶۷
انتالیسواں باب	انتخابات میں مسلم لیگ کی دھاندلی	۱۷۱
چالیسواں باب	ریفرنڈم اور کانگرس کی بے رخی	۱۷۵
اکتالیسواں باب	کیبنٹ مشن اور ہندوستان کی عبوری حکومت	۱۷۹
بیالیسواں باب	نہرو کی صوبہ سرحد آمد	۱۸۱
ترتالیسواں باب	گاندھی جی کے ساتھ گزرے لمحات	۱۸۹
چوالیسواں باب	ڈاکٹر خان کی حکومت کے خلاف مسلم لیگ کی سازش	۱۹۵
پینتالیسواں باب	تقسیم ہند کے مسئلے پر کانگرس کا رویہ	۱۹۹
چھیالیسواں باب	قیام پاکستان کے بعد کی داستانِ اسیری	۲۰۳

Marfat.com

پیش لفظ

پیش نظر کتاب ایک بیش بہا تصنیف ہے - بادشاہ خان کی سوانح عمریاں تو کئی شائع ہو چکی ہیں ' جن میں سے پیارے لال صاحب کی تصنیف کردہ سوانح عمری سب سے پہلے منظر عام پر آئی - بعد ازاں انگریزی میں ٹنڈولکر صاحب کی لکھی ہوئی شائع ہوئی اور حال ہی میں جوشی صاحب نے بادشاہ خاں کی سوانح حیات مراٹھی زبان میں شائع کی ہے ' لیکن یہ کتاب "سرحدی گاندھی" کی آپ بیتی ہے - دوسروں کی نوشتہ سوانح عمریاں تو بے شمار ہو سکتی ہیں ' لیکن آپ بیتی یا خود نوشت سرگزشت صرف ایک ہی ہوتی ہے - اور جب وہ ایک حق پرست کی آپ بیتی ہوتی ہے تو وہ مستند بالذات ہونے کی وجہ سے لامثال بن جاتی ہے -

بادشاہ خان غیر منقسم ہندوستان کی جنگ آزادی کے ہراول میں ایک سالار تھے - ان کے پر شجاعت عدم تشدد اہنسا کی وجہ سے ہندوستان نے انھیں سرحدی گاندھی کا لقب دیا تھا - اس دور یا نسل کے جو لوگ اس ملک میں اب تک زندہ ہیں ' وہ تو خان عبدالغفار خاں کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں ' لیکن دور حاضرہ کی نئی نسل کے لئے وہ ماضی کی ایک ایسی تواریخی شخصیت بن کے رہ گئے ہیں ' جس کی تاریخ دھندلی پڑ چکی ہے - اگر نئی نسل کو ان پر نور کردار کی کچھ جھلک نصیب ہو جائے ----- اس ضوپاش تجلی کا ایک جلوہ میسر آجائے تو شاید اس کے قدم ظلمت سے نور کی طرف بڑھ سکیں -

اس کتاب کا کسی بھی وقت اشاعت پذیر ہونا ایک اہم واقعہ گردانا جاتا لیکن ایک خاص سبب سے اس موقع پر اس کا منظر عام پر آنا اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے - ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک "خان عبدالغفار خان سانگرہ سمتی" کا قیام عمل میں آیا ہے - جس کا صدر ہونے کا فخر مجھ ناچیز کو نصیب ہوا ہے اس سمتی کا اہم مقصد یہ ہے کہ مہاتما گاندھی کی سویں سالگرہ کے سال رواں میں خان عبدالغفار خان کو ہندوستان میں

Marfat.com

مدعو کیا جائے- آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بادشاہ خان نے ہماری دعوت کو قبول فرمالیا ہے
اس طرح جبکہ ہندوستان کے عوام کو بادشاہ خان کی عظیم شخصیت کے دیدار ہونے والے ہیں- اس کتاب کا اس تقریب پر شائع ہونا بلاشبہ بڑا برمحل اور ملک کے لئے فیض رساں ثابت ہوگا شروع میں یہ کتاب ہندی اردو اور انگریزی ان تین زبانوں میں چھپ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ تعلیم یافتہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہے گا جو اس مبارک موقع پر بادشاہ خاں کی آپ بیتی کے مطالعہ سے بہرہ مند نہ ہوسکے-

آخر میں شری کنور بھان نارنگ اور رام سرن نگینہ کانتیز گاندھی سمارک ندھی کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ ان کی محبت عقیدت اور محنت و کاوش کی بدولت یہ بے نظیر کتاب عوام کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے-

۹-۳-۶۹

نئی دہلی

جے پرکاش نارائن

Marfat.com

تعارف

خدائی خدمت گار تحریک کے بانی اور عدم تشدد کے علمبردار خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی بے مثال انقلابی شخصیت وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ نمایاں اور ان کے نظریات زیادہ پُرکشش نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے اس عظیم شخصیت کے کارہائے نمایاں اہلِ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ ویسے ویسے ان کی لازوال شخصیت بھی نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔

باچا خان کی علمی روحانی سماجی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آج بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ عصر حاضر تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کی شخصیت پر پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالات قلمبند کئے جائیں اور باچا خان جیسی دیو مالائی شخصیت کے کردار کو دنیا کے سامنے لایا جائے تا کہ آج جو دنیا کے تقریباً ہر خطہ میں قانون کی حکمرانی کی بجائے تشدد کی حکمرانی عالمی سطح سے لے کر تھانہ کی سطح تک قائم ہے۔ باچا خان کے نظریات وافکار کی نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ ہر سطح پر ضرورت ہے۔ آج وقت نے یہ امر سچ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کے افکار حقائق پر مبنی تھے۔

فکشن ہاؤس نے باچا خان کی انقلابی زندگی پر مبنی ان کی سوانح عمری کو خوبصورت انداز میں شائع کر کے حقائق جاننے والے طالبانِ علم کو گنج گراں مایہ سے نواز دیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی بڑا کام لیا جانا مقصود ہو تو اس کو اوائل عمری میں ہی بابوں جیسے خیالات و نظریات سے آگہی میسر آ جاتی ہے۔ باچا خان کی یہ سوانح عمری اس حوالہ سے بھی تاریخ کے نوآموز طالب علموں کے لئے مشعل راہ ہے۔

وہ مردِ مجاہد پندرہ سال تک فرنگیوں سے آزادی کی لازوال نعمت کے حصول کے لئے پابند سلاسل رہا۔ پھر جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو نو قیام شدہ پاکستان کی حکومتی مشینری نے انہیں بڑی بیدردی سے دشمن وطن قرار دیتے ہوئے پندرہ سال تک جیل میں بند رکھا۔

اپنی ساری زندگی اپنے عوام کے حقوق کے حصول کے لئے کوشاں رہنے اور جبر و تشدد کے مقابلے میں عدم تشدد کا علم بلند کرنے والے باچا خان نے ہر حال میں یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ سے بڑا کوئی جج نہیں ہوتا۔ شاید آج یہی تاریخ اسی نظریہ کی وجہ سے انہیں عظیم ہیرو کے طور پر اپنے روشن ابواب میں شامل کر چکی ہے۔ باچا خان کے نظریات اور جدوجہد یقیناً رہتی دنیا تک قابلِ ستائش اور لائق تقلید ہوگی۔

علامہ عبدالستار عاصم

چیئرمین القلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل

I-ایبٹ روڈ لاہور

0333-4393422

Marfat.com

اتمان زئی ---میرا گاؤں

میں ہشت نگر کے جواب اشتغر کے نام سے مشہور ہے اتمان زئی گاؤں میں خان بہرام خان کے یہاں پیدا ہوا تھا اس وقت ہمارے وطن میں اول تو یہ رواج نہیں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت اس کے والدین اس کی تاریخ و سن پیدائش اپنے پاس لکھ لیں اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اسی وجہ سے میری پیدائش کی تاریخ کسی نے نہیں لکھی تھی لیکن میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ میرے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی جب شادی ہوئی تھی تب میں گیارہ سال کا تھا- چونکہ ان کی شادی ۱۹۰۱ء میں ہوئی تھی اس لئے میں بجا طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میں ۱۸۹۰ء میں پیدا ہوا تھا-

میرے والد صاحب گاؤں کے ایک بہت بڑے خان تھے لیکن ان میں خانیت کے غرور و نخوت کا شائبہ تک نہ تھا وہ نہایت منکسر المزاج 'خدا پرست 'متقی اور پرہیز گار انسان تھے وہ ظالم کے بمقابلہ مظلوم کے حمایتی تھے فراخ دلی اور رحم و کرم ان کی فطرت کا خاصہ تھے کوئی ان کا برا بھی کرتا تو بدلہ چکانے کے اہل ہونے کے باوجود وہ درگزر کر دیتے بردباری سے کام لیتے اور ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے-

ایسی ہی فیاض طبع میری والدہ بھی تھیں وہ ہمیشہ ایک ہانڈی سالن اپنے گلی محلے کے غریبوں کے لئے پکایا کرتی تھیں اور ان سب میں تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا کرتی تھیں- اسی طرح ہمارے حجرے میں جو مسافر آکر ٹھہرتے تھے اور جنھیں کوئی بھی نہیں جانتا پہچانتا تھا اور نہ ہی اس قسم کے مسافر کسی کے مہمان ہوتے تھے - ایسے مسافروں کے لئے میرے والد صاحب خود روٹی لے کر جایا کرتے تھے حالانکہ اس قسم کے کاموں کے لئے گھر میں

Marfat.com

نوکر چاکر موجود ہوتے تھے والد صاحب روٹیوں کی ٹوکری اپنے سر پر اور سالن کا برتن ہاتھوں میں اٹھا لیتے۔ حجرے میں پہنچ کر اجنبی مسافروں کو کھلاتے پلاتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسافر جنھیں نہ کوئی جانتا اور نہ کوئی پہچانتا ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں' اس لئے میں خود ان کے لئے کھانا لے جاتا ہوں۔

دوسرے خوانین کی مانند میرے والد صاحب حاکم پرست نہیں تھے نہ ہی دوسرے خوانین کی طرح وہ حکام سے تعلقات قائم کرتے تھے۔ ان کی خدمت یا خوشامد کرنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب کی خودداری کی یہ خوبی میرے دادا محترم سے ورثہ میں ملی تھی۔ میرے دادا کا نام سیف اللہ خان تھا۔ اس زمانے میں جب سرکاوے پر جنگ جاری تھی اور انگریز بونیر کے علاقہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس وقت ہمارے ملک کے خوانین انگریزوں کی امداد اور حمایت کرنے لگے تھے' لیکن میرے دادا سیف اللہ خان نے اپنی مظلوم قوم کا ساتھ دیا تھا جس طرح غازی ان فرنگیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اسی طرح میرے دادا نے بھی غازیوں میں شریک ہو کر مورچہ سنبھال رکھا تھا اور اسی طرح انگریز جب بھی صوبہ سرحد کے لوگوں سے لڑائیاں لڑنے ان پر چھاپے مارتے اور انھیں غلام بنانے کی کوشش کرتے تو میرے دادا سیف اللہ خان ہمیشہ قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑتے۔

میرے پردادا عبید اللہ خان اپنی روشن دماغی اور قوم پروری کی بنا پر درانیوں کے ہاتھوں تختہ دار پر لٹکائے گئے تھے۔ کیونکہ اس وقت ہمارے ملک پر درانیوں کا تسلط تھا اور میرے پردادا اپنی قوم میں ایک بااثر سوخ طاقتور اور ہر دلعزیز رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔

درانیوں کے بعد جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو ہمارا علاقہ اس وقت پنجاب سے ملا ہوا تھا۔ پنجاب میں انگریزوں نے پنجابیوں کی تعلیم کے لئے بہت سے مدرسے کھول رکھے تھے لیکن ہمارے ملک میں تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پٹھانوں کے ساتھ انگریزوں کی کوئی ہمدردی نہ تھی! اور نہ ہی پنجابیوں کی ہم سے کوئی ہمدردی تھی ہمارے ہاں محکمہ تعلیم کے تمام افسر پنجابی تھے اور اسی وجہ سے ہمارے وطن میں باقاعدہ طور پر تعلیم کا بندوبست نہیں تھا کہیں کہیں بعض بڑے بڑے گاؤں میں اگر اکادکا پرائمری اسکول تھے تو ان میں کہیں کہیں ایک استاد بیٹھا ہوتا تھا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں ہر ایک قوم کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دینے کا طریقہ رائج کر رکھا تھا لیکن ہم ہی واحد بد قسمت قوم

Marfat.com

تھے کہ اول تو ہمارے ملک میں تعلیم کا بندوبست نہیں تھا' اور کچھ تھا بھی تو یہ کہ ہمارے بچوں کو پرائی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ انگریزوں نے ایک طرف تو ہمارے لئے خال خال ہی مدرسے قائم کئے تھے اور دوسری طرف ایسے نام نہاد ملاّ ملانٹوں کو ہمارے پیچھے لگا رکھا تھا جو یہی فتویٰ صادر کیا کرتے تھے کہ "ان مدرسوں میں سبق پڑھنا کفر ہے" ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا محور یہ عجیب وغریب تھا کہ

سبق چہ د مدرسے وائی   پارہ د پیسے وائی

جنت کے بہ ژائے نہ وی   دوزخ کے بہ گھسے وہی

"جو لوگ مدرسے میں سبق پڑھتے ہیں وہ پیسوں کی خاطر ایسا کرتے ہیں ان کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی وہ دوزخ میں دھکے کھاتے رہیں گے" اس پراپیگنڈا کا اصل مطلب یہ تھا کہ پٹھان بے علم اور جاہل رہ جائیں اور یہی وجہ تھی کہ پٹھان ہندوستان بھر میں تعلیم کے لحاظ سے سب سے پس ماندہ تھے۔

پٹھان بچوں کے لئے تحصیل علم کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا مسجدوں میں کسی قدر دینی تعلیم کے نام سے درس وتدریس کا تھوڑا بہت انتظام تھا لیکن وہ ملاّ لوگوں کے لئے تھا اور اکثر لوگ یہ تعلیم امامت کرنے کے لئے حاصل کیا کرتے تھے' عام پختونوں کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔

چونکہ اسلام سے پہلے پختون ہندو تھے اور ہمارے سماج میں بھی وہ غلط دستور رائج تھا کہ "علم (ودّیا) صرف برہمنوں کے لئے ہے" اس دستور کے تحت ہم بھی اسی طرح تقسیم ہو چکے تھے جیسا کہ ہندو الگ الگ ٹکڑوں میں تھے۔

میرے والد صاحب نے خود تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن علم سے ان کا بہت پیار اور شغف تھا۔ میں پانچ چھ سال کا تھا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسجد میں ملا کے پاس بٹھا دیا گیا ملاّ بے چارا تو خود ہی علم وادب سے بے بہرہ اور لکھنے پڑھنے سے عاری تھا وہ بھلا مجھے کیا پڑھاتا اور لکھاتا اسے قرآن شریف کی چند ایک سورتیں یاد تھیں نیز وہ قرآن شریف پڑھ ضرور سکتا تھا' لیکن معنی ومطلب بالکل نہیں سمجھتا تھا ملاّ صاحب نے مجھے سپارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ سپارہ خوانی شروع کرتے وقت میرے ماں باپ نے مٹھائی بانٹی اور میرے اس آغاز تعلیم پر بہت خوشیاں منائیں۔

عجیب بات تھی کہ ملا صاحب مجھے الف ب پ اور ت تو نہیں پڑھا سکے تھے لیکن سپارہ

Marfat.com

پڑھنا شروع کر دیا۔ غور فرمایئے جب ایک آدمی حروف تہجی سے واقف نہیں وہ سپارہ کیسے پڑھ سکے گا؟ لیکن اس میں بیچارے ملّا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اس زمانے میں پڑھانے کا یہی طریقہ ہمارے دیس میں مروج تھا۔

ہمارا استاد بڑا ظالم تھا اور ہمیں بڑی بے دردی سے پیٹا کرتا تھا کچھ عرصہ میں میں نے قرآن شریف ختم کر لیا میرے ماں باپ نے قرآن شریف کے ختم کرنے پر بڑی خوشیاں منائیں بڑی بھاری خیرات بھی کی اور ملّا کو بھی بہت سے روپے دیئے

پٹھانوں میں علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور اکثر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لئے مسجدوں میں بھیجتے تھے۔ کیونکہ بچوں کے درس تدریس کے لئے کوئی اور ادارہ یا مدرسہ نہیں ہوتا تھا بغرض محال ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کہیں مدرسے تھے بھی تو ملّا ملانٹے ان میں پڑھنے کے لئے لوگوں کو نہیں جانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ "دنیا کا یہ علم کفر ہے" چنانچہ انھوں نے اپنے شاگردوں اور ان پڑھ لوگوں کو یہ شعر یاد کرا رکھے تھے جو وہ گلی کوچوں اور بازاروں میں بڑے جوش اور اونچی آواز سے گاتے پھرتے تھے۔

سبق چہ د مدرسے وائی　　پارہ د پیسے وائی

جنت کے بہ زائے نہ دی　　دوزخ کے بہ گھسے وہی

"جو مدرسے میں سبق پڑھتے ہیں وہ پیسے کی خاطر ایسا کرتے ہیں انھیں جنت میں جگہ نہیں ملے گی اور دوزخ میں رگڑے کھاتے رہیں گے"

لیکن میں خوش نصیب تھا کہ خدا نے مجھے ایک دلاور، پاکباز اور ایمان دار باپ اور نیک طینت ماں دی تھی جو مسجد کے ملانٹوں کے فتوؤں اور اردگرد کے لوگون کے واویلا اور آوازوں کی پروا نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے میرے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو مدرسہ بھیج دیا اور میرے خیال میں ہشت نگر بھر میں یہ سب سے پہلا لڑکا تھا جسے مدرسے بھیجا گیا تھا۔ جب میں نے قرآن شریف ختم کر لیا تو مجھے بھی ماں باپ نے مدرسے بھیج دیا اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی ملاّ ملانٹے چھپ چھپ کر ہمارے خلاف لوگوں میں پراپیگنڈا کرتے تھے لیکن انھیں کھلے عام ہمارے خلاف منہ کھولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ ہمارے خلاف کفر کا فتوی لگانے کی ہمت کر سکتے تھے کیونکہ میرے والد صاحب کو ایک خان ہونے کی حیثیت سے خاص سماجی اقتدار نصیب تھا مولاناؤں کے لئے ان پر انگشت نمائی کرنا ٹیڑھی کھیر تھا۔

Marfat.com

پشتونستان -- آریاؤں کا پہلا مسکن

یہ کس قدر افسوس ناک بات ہے کہ ہمارا دیس جو تاریخ کے مختلف ادوار میں علم وادب اور تہذیب وتمدن یا ثقافت کا گہوارہ رہا تھا تاریخ کے نامساعد حالات' ملّا مولاناؤں کی جہالت اور گراوٹ کی وجہ سے اس حالت تک گر گیا کہ اس میں تقسیم جیسے نیک کاموں کے لئے بھی کوئی گنجائش نہ رہی۔

ہمارے اس دیس میں مختلف ثقافتیں اور تمدن گزر چکے ہیں ایک وقت تھا کہ یہ علاقہ آرین تہذیب کا گہوارہ تھا پھر اس ملک میں بدھ مت کا دور دورہ شروع ہوا اس دور میں ہمارے ملک نے بڑی ترقی کی اور یہ دور ایک عظیم معاشرے کے آثار اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ آج بھی مہاتما گوتم بدھ کے دو عظیم الشان مجسّمے بامیان میں موجود ہیں جو دنیا بھر میں مہاتما بدھ کے سب سے بڑے مجسّمے ہیں اور پہاڑ کے دامن میں فنِ اصنام کے کمال کی بے مثل نظیر پیش کر رہے ہیں۔

بامیان کے دامن کوہ میں مہاتما گوتم بدھ کے مجسموں کے چاروں طرف سارے پہاڑ میں جگہ جگہ غاریں بنی ہوئی ہیں۔ ان غاروں میں بدھ مذہب کے راہب پیشوا روحانی معلم اور طالب علم رہا کرتے تھے۔ بامیان کے علاوہ جلال آباد کے گردونواح میں ہڈھ کے مقام پر بدھ مذہب کی عظیم یونیورسٹی تھی جس کے آثار ابھی تک موجود ہیں یہی حال ٹیکسلا کا تھا ان مقامات پر سنگ تراشی، صنم گری، تعمیرات کے نمونوں پتھر و لکڑی سے متعلقہ فنون لطیفہ کے پائے گئے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم پٹھان لوگ ایک بلند تمدن اور کلچر کے مالک تھے اور ہم نے اس قدر ترقی کی تھی کہ اپنے ملک سے باہر چین اور مشرق بعید تک ہمارے بازو پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح ہم نے اپنے کلچر اور مہاتما گوتم بدھ کے پیغام سے دنیا کو بھی روشناس کرا دیا۔

دو تین سال قبل ہمارے گاؤں کے قریب آثار قدیمہ کے محکمہ والوں نے کھدائی کی تھی اس کھدائی سے زمین کے نیچے سے ایک بڑا شہر برآمد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر گندھارا کے شاہی خاندان کا مرکز تھا اور اگر ہم تاریخ کے دھندلکے میں تھوڑا سا اور بھی پیچھے چلے

Marfat.com

جائیں تو پٹھانوں کا یہ ملک جو اس وقت افغانستان اور پشتونستان کے نام سے مشہور ہے نوع انسان کے ایک عظیم خاندان کا گہوارہ رہ چکا ہے۔

تاریخ دانوں کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آرین نسل نے سب سے پہلے اسی ملک میں دریائے آمو کے کنارے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر اسی دھرتی پر اس نے تمدن کا عروج کمال حاصل کیا تھا۔ بعد میں جب اس قوم کی تعداد بڑھ گئی اور ملک میں بھیڑوں کے ریوڑ رکھنے کی جگہ نہ رہی تو آہستہ آہستہ اس کے افراد نے نئے نئے ملکوں کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا یہ لوگ ایک طرف تو ایران کی سمت سے یورپ کو چلے گئے اور دوسری جانب ہندوستان کی طرف بڑھ گئے اور جدا جدا قوموں میں تقسیم ہو گئے! جہاں بھی وہ گئے انھوں نے جغرافیائی حالات اور ملکی اثرات کے تحت جدا جدا تمدن اور زبانیں اختیار کر لیں لیکن آریہ نسل کے یہ لوگ جب اس سے پہلے اپنے ابتدائی وطن "اریانا ویجو" موجودہ افغانستان اور پختونستان میں رہتے تھے تو ان کی ایک ہی بولی زبان تھی جسے اب "آریک زبان" کا فرضی نام دیا گیا ہے اسی "آریک زبان" کی قربت "پشتو" زبان کو حاصل ہے۔

پٹھان اونچے اونچے ناقابل عبور پہاڑوں اور درّوں میں آباد تھے اور بیرونی اثرات سے نسبتاً محفوظ تھے پہاڑوں سے گھرا ہوا یہی ملک "اریانا ویجو" تھا جس میں تاریخ کے اولین دور کے پیغمبر زرتشت' نے جنم لیا زرتشت بلخ کے رہنے والے تھے مگر بعد میں ایران چلے گئے لیکن ان کی کتابیں اب بھی بلخ کی تعریف و توصیف سے بھرپور ہیں جن سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ یہی وہ سرزمین تھی جہاں ہندو دھرم کے مقدس وید کے گیتوں نے جنم لیا اور یہی وہ ملک ہے جس کے ایک فرزند پانی نے سنسکرت زبان کی گرامر لکھی اور اسے ایک ادبی زبان کے طور پر دنیا سے متعارف کیا۔ یہ پانی رشی دریائے سندھ کے کنارے حالیہ تحصیل صوابی کا ایک باشندہ تھا۔

اسی طرح اس ملک کے ایک دریا اور پشتو کے ایک لفظ' جس سے ہندو نام بنا ہے یہ سندھ سے اخذ کیا گیا ہے جسے سند بھی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ پشتو میں ہر ایک دریا کو سندھ کہا جاتا ہے آریاؤں کے اس مشترکہ خاندان میں' جس سے بہت سے آریہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے دو بڑے گھرانے باقی رہ گئے جن میں سے ایک پشتو سے اور دوسرا بلوچ' نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں اب بھی اپنے اسی پرانے وطن میں رہ رہے ہیں اس کی حفاظت اس کی

Marfat.com

تعمیر وترقی کا کام خدا نے انہی کے سپرد کر رکھا ہے۔

ہمارے اس دیس میں بعد میں اسلام آیا۔ لیکن اسلام جس وقت اس ملک میں آ رہا تھا۔ اس وقت عربوں میں وہ روحانی روشنی' خدائی جذبہ اور تقویٰ باقی نہیں رہا تھا جو پیغمبر اسلام لائے تھے یا جس سے ابوبکر اور عمر جیسی عظیم شخصیتوں نے اپنی عملی زندگی اور بلند کردار کے ذریعہ عوام کو متعارف کرایا اس وقت جب کہ اسلام ہمارے ملک میں وارد ہوا عرب شہنشاہیت اور مطلق العنانی میں مست ہو چکے تھے اور انھیں ملک گیری کی ہوس نے اندھا کر رکھا تھا۔ ان میں تبلیغ کا جذبہ اور نیکی پھیلانے کی اسپرٹ مفقود ہو چکی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے ہمارے شاندار تمدن اور شائستہ کلچر تو لے لئے گئے لیکن اس کے بدلے ہمیں اسلام کی وہ اصلی شکل نہ دی گئی' جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اس کے باوجود ہمارے بعض علم دوست اور خدا رسیدہ لوگ اسلام کی تلاش میں اسلامی دنیا میں گھومے اور انھوں نے اسلامی فلسفہ' علم ودانش اور تصوف میں اپنے لئے ایک بلند مقام پیدا کر لیا جس پر ہم لوگ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں اور برصغیر ہند کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ انہی بزرگوں کے سر کے صدقہ اب پاکستان بنا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن بنھانوں نے پاکستانی علاقہ کے اسلاف کو اسلام دیا تھا ان کے ساتھ پاکستان کا سلوک کیسا ہے؟

Marfat.com

ذخیرہ

فوجی نوکری کا شوق

میں نے ابتدائی تعلیم پشاور کے میونسپل بورڈ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد پشاور کے مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد میرا بھائی اسی اسکول کا کورس ختم کر کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بمبئی چلا گیا اور میں مشن ہائی اسکول میں اپنا ایک نوکر بارانی کاکا کے ساتھ رہ گیا۔ بارانی کاکا مجھے فوج کے قصے کہانیاں سناتا اور کہا کرتا تھا کہ فوج کی نوکری بڑی باعزت اور بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی آدمی فوج میں سالار کی وردی میں ملبوس ہو اور کرچ وغیرہ فوجی اسلحہ سے لیس ہو کر اپنی کمپنی کے آگے چل رہا ہو تو اس کی شخصیت سے عجیب رعب داب اور تمکنت و حشمت ٹپکتی ہے۔

بارانی کاکا کی باتوں نے میرے اندر بھی فوجی نوکری کے لئے زبردست شوق پیدا کر دیا اور میں نے ماں باپ سے صلاح مشورہ کئے اور اجازت لئے بغیر ایک درخواست برائے ڈائریکٹ کمیشن ہندوستان کے کمانڈر انچیف کو بھیج دی اس کے بعد میں اس درخواست کے جواب کا انتظار کرنے لگا دستور کے مطابق کمیشن عطا کرنے سے پہلے سرکار امیدوار کے متعلق ضروری تحقیقات عمل میں لاتی ہے اور اس کے لئے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے اس دوران میں نویں جماعت پاس کر کے دسویں میں داخل ہو چکا تھا اب جب میٹرک کا امتحان شروع ہوا اور میں لگ بھگ آدھے پرچے دے چکا اور آدھے پرچے ابھی دینے باقی تھے کہ مجھے ایک سرکاری حکم نامہ ملا کہ "تمہارا ڈائریکٹ کمیشن منظور کیا جا چکا ہے اور تم کل صبح دس بجے بھرتی کے دفتر میں حاضر ہو جاؤ" یہ حکم نامہ میرے لئے غیر معمولی خوشی کا باعث تھا کیونکہ اس زمانے میں ڈائریکٹ کمیشن کا حصول بہت اہم بات تھی میں نے اس خوشی میں امتحان دینا چھوڑ دیا اور بھرتی افسر کے دفتر میں چلا گیا۔ میرا معائنہ ہوا اور میرا نام ڈائریکٹ کمیشن میں درج ہو گیا۔

انھیں دنوں میرے بھائی ڈاکٹر خان صاحب بمبئی سے انگلینڈ روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ

Marfat.com

کرا یک میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔

مجھے ڈائریکٹ کمیشن میں لے لئے جانے کی منظوری ملنے پر میرے والد صاحب بہت مسرور ہوئے "۔ان دنوں مردان میں گائڈ کے نام سے ۔سالہ اور پلٹن مقیم تھی "۔یہ پلٹن تمام ہندوستان کی فوج میں بڑی شہرت اور عزت کا مقام رکھتی تھی۔اس میں بڑے بڑے لوگو ں کے لڑکے بھی بڑی مشکل سے سپاہی بھرتی کئے جاتے تھے اور پنجاب کے بڑے بڑے لوگوں کے لڑکے اس میں لیس نائک تھے "۔میں اسی پلٹن میں ڈائریکٹ کمیشن پر اس لئے لیا جا رہا تھا کہ میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا "۔چھ فٹ اور تین انچ میرا قد تھا اور میٹرک تک میری تعلیم تھی ۔انہی وجوہات سے اس پلٹن کے انگریزوں کو مجھ سے محبت اور رغبت تھی ۔اور ان کی خواہش تھی کہ میں اس پلٹن میں شامل ہو جاؤں ۔میرے والد صاحب بھی اس میں رضامند اور بہت خوش تھے ۔لیکن ایک دن میں پشاور میں ایک دوست سے ملنے گیا جو اس رسالہ میں رسالدار تھا ۔میں اور وہ دونوں کھڑے تھے کہ اس دوران ایک فرنگی جو اس رسالہ میں لیفٹیننٹ تھا آیا ۔رسالدار صاحب ننگے سر کھڑے تھے اور سر کے بال فیشن ایبل تھے سر کے اگلے حصہ پر تراشے ہوئے بالوں کا گچھا تھا اس انگریز نے جب رسالدار کے سر کے بالوں کا یہ فیشن دیکھا تو بڑا غضب ناک ہو کر بولا "ویل!ڈیم سردار صاحب تم بھی انگریز بننا چاہتا ہے؟" یہ سن کر رسالدار کا رنگ فق ہو گیا اور اس میں اتنی بھی جرأت نہ رہی کہ اس بات کا اسے کوئی جواب دیتا۔میں نے جب یہ نظارا دیکھا تو اس کا مجھ پر بڑا سخت اثر ہوا ۔مجھے تو " بارانی کاکا" فوجیوں کی عزت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔لیکن یہاں مجھے ذلت ہی ذلت نظر آئی ۔پھر کیا تھا میں نے اسی دن سے انگریزوں کی نوکری کا خیال ہی چھوڑ دیا' لیکن میرے ابا جان نے میرے اس خیال کی سخت مخالفت کی ۔وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے' کیونکہ ان دنوں ڈائریکٹ کمیشن حاصل ہونا ایک بہت بڑی چیز تھی' لیکن مجھے وہ بڑی چیز نہیں دکھائی دی اور نہ ہی مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی عزت نظر آئی بلکہ مجھے تو وہ ایک حقیر ہلکی اور گری ہوئی چیز دکھائی دی۔

ڈائریکٹ کمیشن ٹھکرا دینے کی وجہ سے بابا جی مجھ سے سخت ناراض تھے' لہٰذا میں نے اس کے متعلق اپنے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو ایک خط بھیجا اور اس میں میں نے یہ لکھا کہ

" میں نے انگریزوں کی نوکری کا خیال ترک کر دیا ہے ۔کیونکہ اس میں کوئی عزت نہیں ہے

Marfat.com

بلکہ غلامی اور ذلت ہے"-ڈاکٹر خان صاحب میرے اس فیصلہ سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ابا جان کو لکھ دیا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح اور شائستہ فیصلہ ہے لہٰذا وہ مجھے مجبور نہ کریں اور نہ ہی ناراض ہوں-

میں نے پھر تعلیم کی طرف رجوع کیا-انہی دنوں میں اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ کیمبل پور چلا گیا-اور کیمبل پور کے ہائی اسکول میں از سر نو داخل ہو گیا' لیکن اس جگہ بڑی سخت گرمی تھی اور میری طبیعت وہاں نہ لگ سکی-میں اس جگہ سے قادیان چلا گیا لیکن یہاں کی فضا بھی مجھے پسند نہ آئی-وہاں رات کو میں نے ایک خواب دیکھا-کہ میں ایک خوبصورت گہرے کنویں میں گر پڑا ہوں-اسی اثناء میں ایک آدمی وہاں آتا ہے اور کنویں کے اندر میری جانب اپنا لمبا ہاتھ بڑھاتا ہے اور میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہوں اور وہ شخص مجھے کنویں سے باہر نکال لیتا ہے-اس کے بعد وہ حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہتا ہے-

" کیا تم کو یہ کنواں نظر نہیں آتا' آخر اس میں اپنے آپ کو کیوں پھینکتے ہو"-علی الصباح جاگا تو یہ قصہ میں نے اپنے اس ساتھی کو سنایا اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس جگہ سے نکل جائیں-چنانچہ ہم وہاں سے واپس اپنے گاؤں آ گئے-

میرا وہ ساتھی تو پشاور کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہو گیا اور میں اپنے گاؤں سے علی گڑھ چلا گیا وہاں کالج میں داخل ہو گیا-لیکن مجھے رہائش کے لئے بورڈنگ میں جگہ نہ ملی-چنانچہ میں نے علی گڑھ کے ایک ہوٹل میں رہائش اور خورد و نوش کا انتظام کر لیا-یہ کالج علی گڑھ شہر سے' جہاں وہ ہوٹل تھا' دور تھا-دن کا وقت میں کالج میں گزارتا اور رات کو شہر چلا آتا

کچھ دنوں کے بعد کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور میں واپس اپنے گاؤں چلا آیا-گاؤں میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ ولایت سے میرے بھائی کا ایک خط میرے باباجی کے نام آیا ہے-اس خط میں میرے متعلق لکھا تھا کہ بہتر یہ ہو گا کہ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ولایت چلا جاؤں اور انہی کے پاس ٹھہروں-وہاں بھائی صاحب ڈاکٹری پڑھ رہے تھے اور میرے لئے انہوں نے انجینئرنگ کا موضوع تجویز کیا تھا-اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جیومیٹری میں بہت لائق تھا-بھائی صاحب کی اس تجویز کے پیش نظر ابا جان نے میرے ساتھ صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی لندن چلا جاؤں-اس فیصلہ کی اطلاع ڈاکٹر خان صاحب کو بھجوا دی-ڈاکٹر صاحب نے میری پی-این-او-جہاز میں جگہ

Marfat.com

ریز رو کروالی۔اور بابا نے مجھے تین ہزار روپے بھی دیئے اور میں جانے کے لئے بالکل تیار ہو گیا' لیکن جب میں رخصت لینے کے لئے اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور جانے کے لئے ان سے اجازت مانگی تو وہ رونے لگیں۔مجھے انہوں نے جانے کی اجازت نہ دی۔میں نے انہیں سمجھانے کی انتہائی کوشش کی لیکن میں انہیں قائل نہ کر سکا۔میں نے ان سے یہ بھی کہا" کہ وہ ذرا اپنے دیش کو تو دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہے۔انگریزوں نے یہاں کے لوگوں میں پھوٹ' پارٹی بازی اور طرح طرح کے نفاق پیدا کر رکھے ہیں۔یہاں بے گناہ لوگ موت کے گھاٹ اتارے جاتے ہیں۔پھر بے گناہ لوگوں پر ہی مقدمے اور دعوے دائر ہوتے ہیں۔آپس کی پارٹی بازی اور بغض و عناد کی وجہ سے اکثر گناہ گار بری ہو جاتے ہیں اور بے گناہ قید کی اذیتیں جھیلتے ہیں۔یہاں تو کسی بھی انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔یہاں سیکھنے کو کیا رکھا ہے"۔ میری ان باتوں کا والدہ صاحبہ پر کچھ اثر نہ ہوا وہ میرے ساتھ متفق نہ ہوئیں۔لوگوں نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھلا دی تھی کہ ایک دفعہ اگر کوئی اس ملک سے ولایت چلا جاتا ہے تو وہ ایسا ملک ہے کہ اس سے کوئی واپس نہیں آتا۔ان کا ایک بیٹا پہلے ہی ولایت جا چکا ہے وہ تو واپس آنے سے رہا۔اور اب یہ دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا گیا تو ان کی بھی یہی حالت ہو گی۔جو لاوارث اور اولاد نرینہ سے محروم ماں کی ہوتی ہے۔مطلب یہ کہ ان کا بھی کوئی نام لیوا اور پانی دیوا نہیں رہے گا۔

چونکہ ہم دو ہی بھائی تھے ایک تو پہلے ہی ولایت جا چکا تھا اور اب میں ہی ان کی دل جمعی کے لئے پاس تھا۔بھائی صاحب کی عدم موجودگی میں وہ مجھے ہی دیکھ کر دل کو تسکین دے لیا کرتی تھیں۔انہیں میری جدائی گوارا نہیں تھی' اس لئے وہ مجھے بدیس جانے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔

دراصل ماں سے مجھے بھی بہت محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھیں۔ میں ان کی اجازت کے بغیر انگلینڈ نہیں جانا چاہتا تھا۔اور جب انہوں نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی تو میں انگلینڈ جانے سے رہ گیا اور ولایت کا خیال ہی میں نے ترک کر دیا۔اب میں نے ملک و ملت اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کا ارادہ کر لیا۔

Marfat.com

نام نہاد ملّا اور انگریز گٹھ جوڑ

۱۹۰۱ء میں انگریزوں نے ہمارے صوبے کو پنجاب سے علیحدہ کر لیا اور ہمارے صوبے میں ایک وحشیانہ قانون کا نفاذ کر دیا۔ ایسا قانون تو شاید ہلاکو خان نے بھی لوگوں پر نافذ نہیں کیا تھا اس کا نام "فرنٹیر کرائمز ریگولیشن ایکٹ" تھا۔ ایک تو یہ قانون بذات خود بہت سنگدلانہ تھا اور اسے کالا قانون کہنا بجا تھا۔ اس پر غضب یہ تھا کہ فرنگیوں نے اسے برے طریقے سے استعمال کیا کہ اس سے پٹھانوں میں پارٹی بازی، پھوٹ اور باہمی دشمنیاں پیدا ہو گئیں۔ ان کی اجتماعی زندگی انفرادی زندگی میں بدل گئی۔ علاوہ ازیں اس گندے قانون نے ہماری عزت اور خودداری کو زبردست نقصان پہنچایا اور ہماری مستورات کو کھینچ کر کچہریوں میں پہنچا دیا۔ یہ اس قسم کا کالا قانون تھا کہ جو آدمی انگریزوں کو ناپسند ہوتا تھا اس پر پولیس ایک فرضی مقدمہ بنا لیتی ایسے مقدموں میں ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ فرنگی اس آدمی پر جرگہ بٹھا دیا کرتا تھا اہل جرگہ بھی ان کے اپنے ہی آدمی ہوا کرتے تھے جو اس آدمی کو چودہ سال قید کی سزا دے دیتے تھے۔

ایک مثال حبیب نور کی پیش کرتا ہوں۔ ۱۹۳۱ء میں کانگریس کی تحریک میں جب چارسدہ میں انگریزوں نے خدائی خدمت گاروں پر بے حد مظالم برپا کئے تو اس سے حبیب نور کو بہت صدمہ پہنچا۔ ان کے دل میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا۔ پھر کیا تھا جب چارسدہ کا انگریز اسسٹنٹ کمشنر کچہری جانے لگا تو یہ اس کے پاس چلے گئے اور انگریز اسسٹنٹ کمشنر کو اپنے طمنچے یعنی پستول سے جہنم رسید کرنا چاہا لیکن ان کا پستول فیل ہو گیا۔ تب حبیب نور نے اس فرنگی کو اوپر اٹھا لیا اور زمین پر زور سے پٹک دیا اور کہا "لو تمہیں مار تو نہیں سکا چلو

Marfat.com

ذلیل کر دوں"- پولیس موقع پر پہنچ گئی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پھانسی دے دی گئی- یہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک ہی مثال بیان کی ہے- اسی طرح اور بے شمار لوگ تھے جن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے-

اس کالے قانون کی ایک اور دفعہ ہے جسے "دفعہ چالیس" کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ دفعہ اخلاقی جرم سے متعلق تھی- لیکن انگریز عمر بھر اسے سیاسی قیدیوں کے خلاف استعمال کرتے رہے- انگریز تو خیر غیر ملکی حکمران تھے' ان سے کیا گلہ یا شکوہ شکایت ہو سکتی تھی' غضب تو یہ ہے' پاکستان کے ملکی حکمرانوں نے بھی ابھی اس کالے قانون کو وطن پرست پٹھانوں پر لاگو کر رکھا ہے- اگر ایک آدمی راستہ پر چل رہا ہو گا تو یہ اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ ضمانت دے دو- وہ انہیں کہے گا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہو گا کہ اس بات کے بتانے کی چنداں ضرورت نہیں اگر ضمانت دیتے ہو تو بہتر' ورنہ جاؤ تین سال کے لئے قید خانے کی ہوا کھاؤ-

میں نے اور میرے ہزاروں خدائی خدمت گار بھائیوں نے اس دفعہ کے تحت قیدیں کاٹی ہیں- ۱۹۰۱ء میں انگریزوں نے جب ہمیں پنجاب سے جدا کیا تھا اور اس قسم کے ظالمانہ قوانین ہمارے لئے بنائے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فرنگیوں کے خلاف پٹھانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ فرنگی انگریز ہمارے دشمن ہیں اور انہوں نے زور ظلم سے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے- انگریزوں کے خلاف پٹھانوں کے اندر ایک پرتشدد تحریک جاری ہوئی تھی- اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ پٹھان جہاں بھی انگریز کو دیکھ لیتے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے- اس طرح بہت سے انگریز موت کے گھاٹ اتارے جاتے تھے اور پاداش میں بہت سے پٹھان پھانسی کے تختوں پر لٹکائے جاتے تھے- یہ قانون اور یہ صوبہ انگریزوں نے اپنی اس خصوصی غرض اور مطلب کے لئے بنایا تھا کہ وہ انگریز کے خلاف پٹھانوں کی اس تحریک کو علیحدہ طور پر کچل کر رکھ دیں-

ہمارے وطن میں نام نہاد ملّا مولانے اور "حضرت" "بزرگ" انگریزوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن کر رہ گئے تھے اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے سے بدستور منع کرتے رہتے تھے- انگریزوں نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ پٹھان تعلیم حاصل کر لے گا اور اس میں سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی تو تمہاری چلی چلائی دوکان ٹھنڈی پڑ جائے گی اور پھر تمہیں

Marfat.com

خیرات اور شکرانے و نذرانے دینا بند کر دیں گے' میں ان ملّاؤں کو بہت سمجھاتا تھا مگر یہ کب سمجھتے تھے - میں انہیں کہتا تھا" دیکھو' اسلام میں علم حاصل کرنا مرد اور عورت کا یکساں فرض ہے - یہ اچھا ہے کہ تم اس قوم کو یہ کہتے ہو کہ ان انگریزی مدرسوں میں تعلیم حاصل مت کرو' - اس حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم قوم کے بچوں کے لئے اپنے مدرسے جاری کرو اور انہی میں انھیں پڑھاؤ اور اگر تم اپنے قومی مدرسے نہیں بنا سکتے تو پھر اس جہالت سے تو انگریزوں کے بنائے ہوئے یہ مدرسے اچھے ہیں' کیونکہ انسان ان میں کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لے گا"-

لیکن وہ کسی حالت میں اس بات کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے ایک دن میں کوہ مری میں تھا گرمی کا موسم تھا- ایک ملّا صاحب میرے مہمان بنے شام کا وقت تھا ہم سیر کے لئے باہر نکلے جب سڑک پر چل رہے تھے اور سیر کر رہے تھے تو چلتے چلتے ایک بنگلے کے پاس پہنچ کر میں نے ملّا صاحب سے کہا-

"ملّا صاحب! ذرا اس بنگلے کو تو دیکھئے' یہ کیسا بنگلہ ہے؟

اس نے جواب دیا" بڑا شاندار بنگلہ ہے اور بہت خوبصورت ہے"

میں نے اسے دوبارہ کہا" اس آدمی کو دیکھئے جس کا یہ بنگلہ ہے اور ان پھولوں کو دیکھئے - اچھا جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے؟"

ملّا صاحب نے جواب دیا" نہیں میں اسے نہیں پہچانتا"-

میں نے اسے کہا" یہ آدمی فرنگیوں (انگریزوں) کا ملّا ہے- اور یہ بھی دیکھئے کہ اس قوم نے ترقی کی ہے تو اس کے ملا نے بھی ترقی کی ہے اور یہ قوم جو بنگلوں میں رہتی ہے' موٹروں میں گھومتی اور سیر کرتی ہے - اس کا ملّا بھی بنگلے میں رہتا ہے اور موٹروں میں پھرتا ہے اور ہم لوگ جب خود ذلیل خوار ہیں اور ترقی یافتہ نہیں ہیں تو ہمارا ملّا بھی ذلیل و خوار ہے - اس لئے ملّا صاحب! آپ اگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم لوگوں نے ترقی کر لی تو آپ بھی ترقی یافتہ ہو جائیں گے - اور اگر ہمارا حال برا ہے تو آپ سوچئے کہ ہمارے ساتھ آپ کی حالت بھی خراب ہے - آپ کے ہاتھوں میں ہر وقت یہی نوکری ہوتی ہے اور گلی کوچوں میں روٹی وظیفے مانگتے پھرتے ہیں - اپنی موجودہ زندگی اور اس انگریز ملّا کی زندگی پر کچھ سوچ بچار کیجئے اور دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے"-

Marfat.com

ملاؤں کو میرا یہ سمجھانا بیکار رہا- کیوں نہ رہتا- انہیں جب خدا نہیں سمجھا سکا تو میں کیا سمجھاتا-

8/2/98

Marfat.com

خلق خدا کی خدمت کا آغاز

میں نے مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ پادریوں یعنی مسیحی مشنریوں کا اسکول تھا۔ اور میرے بہت سے ساتھیوں نے اسلامیہ اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ میری تعلیم نے میرے دل میں ملک و ملت سے پیار و محبت اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا تھا لیکن میرے جو اور ساتھی تھے ان کے دلوں میں نہ تو ملک و قوم سے کوئی محبت تھی اور نہ ہی ان میں خدمت گذاری کا جذبہ تھا۔ میں نے اس مسئلہ پر جس قدر بھی غور و فکر کیا ہے' میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرے اندر جو حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے بھی تعریف و توصیف کا حق میرے ان استادوں کو پہنچتا ہے جن سے میں متاثر اور فیض یاب ہوا تھا۔

شاگرد پر استاد کا اثر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ مجھ پر بھی اپنے استاد کا بہت اثر پڑا تھا اور اس سے میرے اندر خلق خدا کی خدمت کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ میرا استاد ایک انگریز پادری ایم۔ ای۔ وگرم تھا اور اس کا ایک بھائی ڈاکٹر تھا۔ کہتے ہیں یہ دونوں بھائی ایک بڑے ممتاز خاندان کے چشم و چراغ تھے اور ان دونوں بھائیوں کو باپ نے مشن کے تحت بھیجا تھا اور انہیں تنخواہ بھی باپ اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔ ان میں سے بڑا بھائی مشن اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اور چھوٹا بھائی مشن ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ یہ دونوں بھائی جس خلوص و محبت سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے اسے میں دیکھا کرتا تھا۔ کیونکہ میں بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا' اس کے قریب ہی ان کا بنگلہ تھا اس زمانے میں ہمارا بورڈنگ ہاؤس اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج مشن کالج کی عمارت کھڑی ہے۔ ہمارے یہی ہیڈ ماسٹر ایم۔ ای۔ وگرم صاحب تین چار غریب یا یتیم طلبا کو اپنی تنخواہ میں سے وظیفے بھی دیا کرتے تھے۔ اس بات نے مجھ پر بے حد اثر کیا۔ میں اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ ایک طرف ہمارے ان مسلمان پٹھان بھائیوں کو دیکھئے کہ ان میں اتنی بھی ہمدردی نہیں ہے کہ اپنے کسی غریب بھائی کی کوئی امداد اور خدمت کریں اور دوسری طرف ان کو دیکھئے کہ یہ ایک غیر ملک کے لوگ ہیں اور غیر قوم اور جدا مذہب رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں میں اپنے ملک و قوم کے لئے تو کیا غیروں کے لئے بھی کتنی ہمدردی

Marfat.com

ہے- یہ کتنی دور سے یہاں آئے ہیں اور ہماری خدمت کرتے ہیں- مثل مشہور ہے کہ "خربوزہ را خربوزہ دیدہ رنگ مے گیرد" یہ مثل مجھ پر بھی صادق آئی تھی-ان لوگوں کے نیک اوصاف کا مجھ پر گہرا رنگ چڑھ گیا تھا یہی وجہ تھی کہ میں انگلینڈ جاکر انہی قسم کے لوگوں کے درمیان تعلیم حاصل کرنے کے لئے بہت خواہش مند ہو گیا- لیکن اماں جان سے اجازت نہ پا کر میں نے انگلینڈ جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور اپنی زندگی کو خلق خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا- کیونکہ ان دنوں ہمارے لوگ جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے تباہی و بربادی کی طرف جا رہے تھے چنانچہ میں نے اپنی خدمت خلق کا آغاز اپنی پٹھان قوم سے جہالت اور لاعلمی دور کرنے کی کوششوں کے ساتھ کیا -

میں نے اپنے چند ہم خیال ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مل کر صلاح و مشورہ شروع کر دیا کہ اپنے وطن میں علم کی روشنی پھیلانے کے لئے کیا اقدام کئے جائیں- خیر ہم نے اس سمت قدم اٹھائے اور خدا کے فضل سے ہمیں حاجی صاحب آف ترنگ[1] زئی کا تعاون حاصل ہو گیا-

حاجی صاحب ایک سچے قوم پرست بزرگ تھے-ان کی سرپرستی میں گدر کے مقام پر ایک دارالعلوم قائم ہو گیا جس کے مہتمم مولوی تاج محمد صاحب مقرر ہوئے-اور مولوی فضل ربّی صاحب اور مولوی فضل محمود مخفی صاحب ان کے ساتھ کام کرنے لگے-میں نے اور مولوی عبدالعزیز صاحب نے ۱۹۱۰ء میں اتمان زئی میں ایک قومی و اسلامی مدرسہ قائم کیا-

---

[1] حاجی صاحب آف ترنگ زئی کی سرگرمیوں کا آغاز تبلیغی اور اصلاحی مشن سے ہوا تھا- انہوں نے فضول رسم و رواج بند کرانے اور اسلامی مدرسے قائم کرنے میں بڑی جدوجہد کی اور اس طرح سے پشتون قوم میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی - حاجی صاحب کی مجاہدانہ سرگرمیوں نے انگریز حکومت کو بدحواس کر دیا اور وہ بوکھلا اٹھی-سرکار نے آپ کو گرفتار کر لیا ان کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش دیکھ کر حکومت گھبرا گئی اور حاجی صاحب کو رہا کر دیا- حاجی صاحب نے انگریزی حکومت کو ختم کرنے کے لئے نئے علاقہ میں ہجرت کر لی اور زندگی کے آخری دور تک انگریزی حکومت کے خلاف برسرپیکار رہے -انہی کے متعلق انگریز نے کہا تھا "حاجی صاحب ترنگ زئی کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہندوستان میں ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے"-

Marfat.com

اسی طرح ہماری کوششوں سے صوبہ بھر میں بہت سے مدرسے کھل گئے اور بہت سے طلبا ان میں تعلیم حاصل کرنے لگے - رفتہ رفتہ لوگوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہو گیا اس زمانہ میں ظفر علی خان کے اخبار "زمیندار" اور مولانا ابوالکلام آزاد کے "الہلال" اور "البلاغ" اور "مدینہ" کو دنیائے صحافت میں بڑی شہرت حاصل تھی اور انہیں ہم بھی منگوایا کرتے تھے ان اخبارات کو جہاں ہم خود بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے وہاں دوسرے لوگوں کو بھی سنایا کرتے تھے کیونکہ ان دنوں لوگوں میں اخبار پڑھنے کا شوق نہیں تھا لیکن ہمارے پڑھ کر سنانے سے لوگوں میں اخبار بینی کا شوق پیدا ہو گیا- جو لوگ "الہلال" اور "البلاغ" منگوایا کرتے تھے ان کے نام پولیس اور سی - آئی -ڈی اپنے پاس درج کر لیتی تھی اور وہ آدمی مشتبہ سمجھے جاتے تھے-

ہمارے صوبہ کے بعض طلباء دیوبند میں تحصیل علم کے لئے گئے تھے اور دیوبندیوں کے ساتھ ہمارے مولوی فضل ربی اور مولوی فضل محمود مخفی کے گہرے تعلقات تھے - مولوی فضل ربی نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی اس لئے ہم کبھی کبھار دیوبند جایا کرتے تھے - دیوبند کے تعلیمی ادارہ کے صدر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جہاں بہت بڑے عالم تھے وہاں نیک خصالی اور پاکبازی میں اپنی مثال آپ تھے ان سے بھی ہمارے تعلقات پیدا ہو گئے - کیونکہ ان کے دل میں ملک و ملت کے لئے بے حد ہمدردی و محبت تھی اور ہم بھی اسی مرض میں مبتلا تھے - وہ بھی اسی فکر میں تھے کہ یہ ملک فرنگی کی غلامی سے کیسے نجات حاصل کرے گا اور ہم بھی انہی تفکرات میں مبتلا تھے - انہیں کے ذریعہ مولانا عبیداللہ سندھی سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہو گئے - مولانا صاحب ان دنوں فتح پوری میں انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن شریف کا درس دیا کرتے تھے اور ہر ایک بی-اے پاس طالب علم کو پچاس روپے ماہوار وظیفہ بھی دیا کرتے تھے - ان کا خیال تھا کہ یہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ مذہب سے بے خبر ہے اور اگر یہ لوگ مذہب سے واقف و باخبر ہو جائیں تو پھر ان میں ملک و ملت سے محبت 'عقیدت اور خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا- مولانا صاحب نے اس سلسلے میں بڑے ایثار و محنت کا ثبوت دیا لیکن وہ اپنے اس خیال میں کامیاب نہ ہو سکے اور سب سے زیادہ رنجیدہ بات یہ ہوئی کہ مولانا صاحب کا ایک بہت بڑا شاگرد جس کی تربیت پر انہوں نے بے حد محنت و مشقت صرف کی تھی اور اپنا بڑا وقت لگایا تھا'

Marfat.com

وہی مخبر یعنی جاسوس نکلا وہ چند ٹکوں کی خاطر تمام باتیں حکومت تک پہنچادیا کرتا تھا-اب غور کیجئے جس قوم کے تعلیم یافتہ لوگوں کی زرپرستی اور حرص و آز کا یہ عالم ہو کہ چند ٹھیکروں کے لئے اپنے ملک و ملت کو بیچنے پر تل جائیں ان میں ملک اور قوم کی محبت اور خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا تھا-

مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو دولت سے پیار ہو گیا اور جب یہ چیز ان میں پیدا ہو گئی تو یہ لوگ خدا پرستی چھوڑ کر زرپرست بن گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے - فتح پوری میں مولوی سیف الرحمٰن سے بھی شرف ملاقات حاصل ہونے کے بعد ان سے اچھی جان پہچان ہو گئی تھی - وہ ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے لیکن عرصہ دراز سے فتح پوری کے عربی مدرسے کے مدرس تھے - اس زمانہ میں انگریزوں نے لوگوں کے دلوں میں انتہائی ڈر پیدا کیا ہوا تھا اور لوگ حکومت سے سخت خائف تھے ہم لوگ چھپ چھپ کر کبھی کبھار صلاح و مشورہ کے لئے دیوبند جایا کرتے تھے -

۱۹۱۲ء میں ماں باپ نے میری شادی کر دی اور ۱۹۱۳ء میں میرے یہاں بیٹا غنی پیدا ہوا - اس زمانہ میں ہمارے صوبہ میں جلسہ جلوس کی بات کوئی نہیں جانتا تھا اور اگر کوئی ان کا خیال بھی دل میں لاتا تو وہ ڈر کے مارے ان کا اہتمام نہ کر پاتا - ۱۹۱۳ء کے اخبارات میں ہم نے بڑے بڑے مضامین اور اعلانات دیکھے کہ آگرہ میں مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا سالانہ اجتماع ہو گا اور اس کے صدر سر ابراہیم رحمت اللہ ہوں گے اور اس جلسہ میں سر آغا خان اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی شریک ہوں گے - ہمارے دل میں بھی اس جلسہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور میرے ساتھی آگرہ روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر مسلم لیگ کے جلسہ میں شامل ہوئے - مسلم لیگ کے صدر کا خطبہ ہم نے سنا اور سر آغا خان اور مولانا ابوالکلام آزاد اور بہت سے دوسرے مقررین کی تقاریر بھی سنیں - جلسہ بہت عظیم الشان تھا اور ہم نے اس میں شریک ہو کر بہت کچھ سیکھا اور سمجھا - اختتام جلسہ کے بعد ہم واپس چلے آئے - آگرہ سے دہلی پہنچے وہاں مولوی فضل الرحمٰن کے بھتیجے کے ساتھ میں نے چند دن دہلی میں گزارے اس اثنا میں میں بیمار ہو گیا اور ہم دہلی سے اپنے گاؤں لوٹ آئے -

---

لہ مولانا عبید اللہ سندھی عظیم انقلابی رہنما تھے انگریزی دور میں ان کا زیادہ وقت غیر ممالک کی انقلابی قوتوں کو منظم کرنے میں گزرا - میں نے انہیں زندگی کے آخری دور میں دیکھا تھا - بڑھاپے کے باوجود ان کے جذبات جوان تھے -

Marfat.com

شیخ الہند سے ملاقات

۱۹۱۴ء شیخ الہند صاحب کا ایک خط مجھے ملا اس میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی میں دیوبند چلا آؤں - میں 'مولوی فضل محمود صاحب اور فضل ربی صاحب روانہ ہو گئے - جب ہم دیوبند پہنچے تو وہاں دیگر کئی مولوی بھی ہمارا انتظار کر رہے تھے - بحث اس بات پر جاری تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے صوبہ سرحد کے آزاد علاقہ میں ایک مرکز ہونا چاہئے جہاں ملک کی آزادی کی خاطر انگریزوں کے مقابلہ کے لئے ایک انتظام کیا جائے اور جدوجہد شروع کی جائے -

اس سے پہلے ہندوستان کی اس جماعت کا خیال یہ تھا کہ بونیر کے آزاد علاقہ میں مجاہدین کا جو مرکز ہے وہ شاید ایک بڑی طاقت کا حامل ہے - لیکن درحقیقت اس بارے میں ہندوستان کے لوگوں کو غلط فہمی میں رکھا گیا تھا - وہ مرکز کوئی بڑی طاقت نہیں تھا - اور اس مرکز کے لوگ اتنے بیکار تھے کہ اس آزاد علاقہ میں جو لوگ ان کے اردگرد اڑوس پڑوس میں رہتے تھے ان سے بھی انہوں نے کوئی رابطہ پیدا کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے ان میں کوئی تبلیغ یا کام کیا تھا -

ان لوگوں کی ایک نہایت مختصر سی جماعت تھی جسے ہندوستان سے روپے ملا کرتے تھے اور وہ مزے اڑایا کرتے تھے - ان کا کوئی بھی کام دھندا نہیں تھا - تیار خور تھے ان کا ایک امیر تھا جس کا نام نعمت اللہ تھا - وہ ہمارے صوبہ سرحد کا باشندہ تھا اس کی ہمارے صوبہ کے خفیہ پولیس کے بڑے افسر شارٹ سے سازباز تھی - ان میں بعض لوگ جاسوس تھے مجاہدین کی یہ جماعت ان لوگوں پر مشتمل تھی جو سکھوں کے مقابلے کے لئے سیّد احمد صاحب اور سیّد اسمائیل صاحب شہید کے ہمراہ ہندوستان کے شہر بریلی سے آئے تھے اور جب سیّد احمد صاحب اور اسمائیل صاحب شہید ہزارہ میں سکھوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تو ان کے یہ باقی ساتھی بونیر کے اس آزاد علاقہ میں آ گئے اور یہاں آباد ہو گئے جب ان لوگوں کی حقیقت ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہو گئی اور یہ جان گئے کہ یہ فضول لوگ ہیں تو شیخ الہند کی جماعت کو ایک نیا مرکز قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی - بہت بحث مباحثوں کے بعد

Marfat.com

فیصلہ اس بات پر ہوا کہ میں اور فضل محمود صاحب باجوڑ کی ان آزاد قوموں میں چلے جائیں اور وہاں ایک محفوظ جگہ مرکز کے لئے منتخب کریں۔ کچھ دنوں کے بعد اس مرکز کے ملاحظہ کے لئے مولوی عبید اللہ سندھی صاحب جائیں۔

اس فیصلہ کے بعد ہم لوگ واپس اپنے گاؤں آ گئے اور کچھ دنوں کے بعد میں اور مولوی فضل محمود صاحب خفیہ طور پر باجوڑ چلے گئے۔ تخت بھائی سے ہم لوگ ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اور درگئی اسٹیشن پر ریل سے اتر پڑے اور اس جگہ سے ہم ٹم ٹم میں سوار ہوئے۔ جب مالاکنڈ کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں بڑی فکر لاحق ہوئی تھی کیونکہ اس جگہ پولیس چوکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں ہر ایک شخص کی، چاہے وہ پیادہ ہوتا یا سوار، تلاشی لی جاتی تھی۔ چھان بین اور پوچھ تاچھ کے بعد اگر کسی پر ذرا بھی شک ہوتا تو اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ میری شکل و صورت اور قد و قامت چھپانے کا نہیں تھا اس لئے مجھے سب سے زیادہ فکر تھی کہ میں کیسے اس چوکی سے گزروں گا۔ میں ٹم ٹم میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے جسم کے اردگرد پورے طور پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔

پولیس چوکی پر پہنچ کر ہماری ٹم ٹم کھڑی ہو گئی اور ہمیں دیکھنے کے لئے ایک سپاہی آ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا میرے دوسرے ساتھی ٹم ٹم سے اتر پڑے اور میں گٹھری سی بنا بیٹھا رہا۔ ہماری ٹم ٹم والا بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے سپاہی سے کہہ دیا کہ صاحب! کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سپاہی قریب آیا میرے نیچے اوپر نظر دوڑائی اور کہہ دیا کہ جا سکتے ہو۔ میں بڑا خوش ہوا کہ ایک بہت بڑی بلا سے نجات ملی۔

ہم بٹ خیل پہنچ کر ٹم ٹم سے اتر پڑے وقت بہت گزر چکا تھا ہم نے وہیں رات گزاری، صبح سویرے ملا کی بانگ کے وقت اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ چکدرے کے پل کو پار کر رہے تھے کہ یہاں بھی سپاہی کھڑے تھے، لیکن ان سے بھی بخیر و خوبی گزر گئے۔ سارا دن پا پیادہ چلتے رہے، شام کو دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر مولوی فضل محمود صاحب کا گاؤں تھا سردی کا موسم تھا دریا میں پانی کم تھا ہم نے دریا کو پار کر لیا۔ دن کے بہت تھکے ماندے اور بھوکے تھے کھانا کھانے کے بعد سو گئے کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے تھے اس لئے گاؤں میں ایک رات آرام کیا اور دوسرے روز فضل محمود صاحب خود تو مولوی عبید اللہ سندھی کے لئے یہاں رک گئے اور میرے ہمراہ اپنا خالہ زاد بھائی بھیج دیا۔ میں اور وہ اس

Marfat.com

جگہ سے باجوڑ کو روانہ ہو گئے یہ دیر کا علاقہ تھا ہم اس جگہ سے بابڑہ چلے گئے۔

چمر کند میں ہڈہ کے ملّا صاحب کے پاس پہنچ گئے وہ خود تو رحلت فرما چکے تھے لیکن ان کے ایک شیخ وہاں موجود تھے۔ بہت اچھے انسان تھے اس جگہ بھی پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی جگہ تھی لیکن وہ بہت خوبصورت تھی شیخ صاحب نے اڑے صاحب کا وہ خلوت خانہ اور لنگر خانہ دکھلایا اس جگہ اور کوئی بھی نہیں تھا صرف شیخ صاحب کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ شیخ صاحب نے اپنے گھر میں شہد کی مکھیاں بھی پال رکھی تھیں اور اسی دھندے پر ان کا گزر بسر تھا۔ ہم نے شیخ صاحب کے پاس رات گزاری۔ صبح ہم ان سے رخصت ہوئے اور کونکی پہنچ گئے۔ کونکی کے خوانین زغر اور خان اور زڑہ ور خان بہت بھلے خان خیل تھے اور انگریز جہاں بھی قبائل پر چھاپے مارتے تھے' یہ لوگ انگریزوں کے خلاف ہر جنگ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس جگہ سے پھر سالرزیوں میں آ گئے اور وہاں سے مامندوں میں چلے گئے۔ یہ دونوں قومیں باجوڑ کی آزاد اقوام تھیں اور بہت اچھے پختون تھے۔ پختونوں کی دیگر اقوام و قبائل کی طرح فرنگیوں کے زیر اثر نہ تھے اور نہ ہی ان سے پیسے یا مواجب لیا کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کہیں بھی انگریزوں سے جنگ ہوتی یہ اس میں شریک ہوتے تھے۔

ہم نے شنگر گل' گبرے' کٹ کوٹ اور اسی طرح کچھ اور گلوؤں میں بھی راتیں گزاریں اور یہ سارا علاقہ گاؤں بہ گاؤں ہم نے دیکھا اور مرکز کے لئے ہم نے مامندوں کے علاقہ میں نرگئے' نام کا گاؤں پسند کیا۔ یہاں ہم مولوی عبید اللہ صاحب سندھی کے انتظار میں تھے۔ ایک دو دن جب انتظار کر چکے اور وہ نہ آئے تو ہم نے یہ خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگوں کو ہم پر کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے' میں نے ایک چلہ کاٹنے کا فیصلہ کیا مسجد میں ڈیرا لگا رکھا تھا اس مسجد میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی۔ میں نے اسی میں چلّہ شروع کر دیا جب چلّہ گزر جانے پر بھی عبید اللہ صاحب سندھی نہ آئے تو ہم اس جگہ سے چل پڑے۔ ملاکنڈ تک تو فضل محمود صاحب کا وہ خالہ زاد بھائی میرے ساتھ رہا اور ملاکنڈ سے میں نے اسے رخصت کر دیا۔

ملاکنڈ کے ایک پولیٹیکل ایجنٹ نے وہاں کے لوگوں پر ایسی دہشت بٹھا رکھی تھی کہ ان کے بڑے بڑے آدمی بھی جب کسی انگریز کو دیکھ لیتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور بہت دور سے اس کے آگے جھک جاتے تھے اور بڑے ادب سے اسے سلام کرتے تھے۔

Marfat.com

اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی انگریز کے سامنے آجاتا اور وہ انگریز کو سلام نہ کرتا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا اور اسے "کاٹھ" میں ڈال دیا جاتا تھا کاٹھ ایک بڑی بھاری وزنی اور لمبی لکڑی ہوتی تھی۔ اس میں سوراخ ہوا کرتے تھے۔ ان سوراخوں کے اندر آدمی کے پاؤں دبا دیئے جاتے تھے اور اوپر سے لکڑی کے ڈھکنے کو ٹھوک ٹھوک کر بند کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح آدمی اس میں بندھا ہوا پڑا رہتا تھا میں بھی ڈرتا ڈرتا' مالاکنڈ سے درگئی کی طرف نیچے اتر آیا اور درگئی پہنچ کر ریل گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اور تخت بائی چلا گیا۔ تخت بائی سے میں اپنے زراعتی فارم یعنی مہمند ناڑی کے گاؤں میں آگیا۔ وہاں میں نے رات گزاری اور دوسرے دن اپنے آبائی گاؤں اتمان زئی چلا آیا۔

دوسرے دن صبح بہت سے لوگ مجھے خوش آمدید کہنے آئے۔ کیونکہ جاتے وقت میں نے یہ بات مشتہر کر دی تھی کہ میں اجمیر شریف جا رہا ہوں تھوڑے دنوں کے بعد یورپ کی جنگ عظیم اول شروع ہو گئی اور مرکز قائم کرنے کی ہماری وہ اسکیم اسی جگہ رہ گئی۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کا کوئی حال احوال نہیں معلوم ہوئے۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب حج معلّٰی کے لئے مکہ شریف چلے گئے۔ انہیں مکہ میں شریف مکہ نے پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے انہیں مالٹا میں قید کر دیا' کیونکہ وہ ترکوں کی خلافت کے حق میں تھے۔ مولوی عبید اللہ صاحب سندھی افغانستان چلے گئے اور مولوی سیف الرحمٰن صاحب سرحد کی طرف واپس آگئے اور حاجی صاحب ترنگ زئی سے ملے اور اس جگہ سے ہجرت کر کے بونیر کے آزاد علاقہ میں چلے گئے۔

حاجی صاحب کے ہمراہ میرے کارگزار ساتھی مولوی راج محمد صاحب جو گدر' دارالعلوم کے مہتمم تھے' فضل ربی صاحب' مولوی فضل محمود صاحب اور مولوی عبد العزیز صاحب بھی ہجرت کر کے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد میں بھی لک چھپ کر ان کے پیچھے بونیر چلا گیا۔ بونیر کے لوگوں نے حاجی صاحب ترنگ زئی کو ایک بہت بلند سطح اور خوبصورت جگہ دے رکھی تھی اور اس کی تعمیر کے لئے بہت سی عمارتی لکڑی بھی لے آئے تھے۔ لیکن اس علاقہ کے جو میاں' ملا اور مذہبی بزرگ تھے' وہ حاجی صاحب کی آمد سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کی آمد سے لوگوں کی تمام تر توجہ ان کی طرف منبذول ہو گئی تھی اور ان کے مقابلہ میں مقامی نام نہاد دینی رہنماؤں کی کوئی وقعت نہیں رہی تھی' اس لئے ان لوگوں

Marfat.com

نے حاجی صاحب کے خلاف پراپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آیا یہ یہاں جہاد کے لئے آئے ہیں یا جائیداد کے واسطے؟

اس پراپیگنڈے سے حاجی صاحب اور ان کے فرزند بلوشاہ گل بڑے متاثر ہوئے تھے اور جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تو ان کے اس ارادے کی بڑی سخت مخالفت کی اور انہیں سمجھایا کہ "یہ خودغرض لوگ ہیں ان کی باتوں کے پیچھے مت جایئے- آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں یہ قوم انگریزوں کے مقابلے کے قابل نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں نے انگریزوں سے جنگ شروع کر دی تو یہ لوگ جنگ کے ناقابل ہونے کی وجہ سے مفید ثابت نہیں ہوں گے- مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیں گے" لیکن میرا مشورہ انہیں اپنے ارادے سے باز نہ رکھ سکا- اور جب میں یہاں سے واپس چلا آیا تو چند دن بعد انہوں نے انگریزوں سے لڑائی شروع کر دی بونیر ی انگریزوں سے جنگ کہاں کر سکتے تھے اور ٹھیک وہی کچھ ہوا جو میں نے انہیں کہا تھا-

بونیر کے لوگوں نے حاجی صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ انہیں پکڑ کر انگریزوں کے سپرد کر دیں لیکن حاجی صاحب کو اس سازش کا علم ہو گیا اور وہ رات ہی رات وہاں سے نکل کر مہمندوں کے قبیلے میں پہنچ گئے لیکن انگریزوں نے اس سے بھی ایک ناجائز فائدہ اٹھا لیا- کیونکہ وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پٹھانوں کے بچے تعلیم کے زیور سے مرصع ہوں- انہیں تو ہمارے یہ قومی مدرسے سخت ناپسند تھے- انگریز ان مدرسوں کو اپنے لئے ضرر رساں سمجھتے تھے چنانچہ حاجی صاحب ترنگ زئی کی انگریزوں کے خلاف نبرد آزمائی نے انگریزوں کے لئے یہ موقع اور بہانہ پیدا کر دیا کہ وہ ہمارے ہاں کے تمام قومی مدرسے بند کر دیں- انہوں نے یہ مدرسے تو بند کر ہی دیئے اور ساتھ ہی ان کے تمام استادوں کو گرفتار کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کے عادی مجرموں کے لئے مخصوص جیل میں ڈال دیا- انگریزوں نے ہمارے لوگوں پر ایسا خوف وہراس طاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص قوم کا نام لینے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا' اور اگر شاذ و نادر کوئی ایسی بات منہ سے نکلتا بھی تو اسے جیل خانے میں ٹھونس دیا جاتا تھا-

---

لہ مولوی عبدالعزیز انتہائی طور پر انگریز دشمن تھے یہاں تک کہ وہ کسی انگ ۔ کو دیکھتے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے- مولانا انگریزوں کی سازش سے علاقہ سوات میں قتل کر دیئے گئے

Marfat.com

Marfat.com

ولی خان کی پیدائش

دسمبر ۱۹۱۵ء میں میرا لڑکا ولی پیدا ہوا - غنی اس وقت لگ بھگ تین برس کا تھا-پھر جب پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد ہندوستان بھر کو انفلوئنزہ کی ہمراہ بیماری نے لپیٹ میں لے رکھا تھا-ان کے بچوں کی ماں کو بھی اس بیماری نے آدبوچا اور وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئی -اس کی وفات ایک عجیب وغریب واقعہ تھا خدا کی قدرت کا ایک غیر معمولی کرشمہ دیکھنے میں آیا-وہ بالکل چنگی بھلی تھی لیکن بیٹا غنی انفلوئنزا میں مبتلا تھا اور بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی -شام کا وقت تھا میں مصلے پر بیٹھا ہوا تھا عصر شام کی نماز میں نے ادا کر لی تھی اور دعا مانگ رہا تھا-قریب المرگ غنی کی چارپائی میرے سامنے پڑی تھی-اس اثناء میں اس کی ماں آگئی اور اس کی چارپائی کے چاروں طرف گھومی اور اس کے سر کی طرف آکھڑی ہو گئی پھر اس نے دعا کے لئے ہاتھ اوپر اٹھالئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے -وہ خدا سے عاجزانہ لہجہ میں کہہ رہی تھی -"اے خدا!! اس معصوم کی تکلیف اور بیماری مجھے منتقل کر دے اور اسے تندرست کر دے' یا خدا!! اس کی بیماری مجھے لگا دے "-

خدا کی قدرت دیکھئے کہ جونہی رات گزری اور صبح ہوئی تو غنی آہستہ آہستہ اچھا ہونے لگا اور اس کی ماں آہستہ آہستہ بیمار پڑنے لگی انجام کار غنی صحت یاب ہو گیا اور اس کی ماں جاں بحق ہو گئی-

Marfat.com

Marfat.com

پشاور جیل میں

۱۹۱۸ء میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تو لوگوں نے تھوڑا سکھ کا سانس لینا شروع کیا۔ لیکن جلد ہی ایک نیا ہنگامہ بپا ہو گیا' ہندوستان کے عوام آس لگا بیٹھے تھے کہ جنگ عظیم میں ہندوستانی جوانوں کی قربانیوں اور خدمات کے صلہ میں انہیں کچھ نہ کچھ حقوق آزادی یا سیاسی مراعات فراواں کر دیئے جائیں گے۔ لیکن بسائے آرزو کہ خاک شد' مراعات کے بدلے ۱۹۱۹ء کا رولٹ ایکٹ سا ایک کالا قانون بصورت تلوار گردنوں پر آویزاں کر دیا گیا۔ پھر کیا تھا' ہندوستان میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس ایکٹ کے خلاف زبردست ایجی ٹیشن شروع ہو گئی ہم بھی اس تحریک میں کود پڑے اس ایکٹ کے خلاف جب ہم نے دوسرا جلسہ منعقد کیا تو لوگوں میں اس قدر جوش تھا کہ جلسہ میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے۔ انہی جلسوں کے ذریعے ہنھانوں میں ایک نئی زندگی پیدا ہوئی۔ ایک دن تنہکل اسلامیہ کالج پشاور کے قریب ایک گاؤں میں جلسہ ہونے والا تھا ہم اس جلسے میں شامل ہونے کے لئے جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں پتہ لگا کہ مارشل لا جاری ہو گیا ہے۔ اس وقت افغانستان اور انگریزوں میں بھی جھگڑا شروع ہو چکا تھا ہم چند ساتھیوں نے مارشل لا سے محفوظ رہنے کے لئے افغانستان چلے جانے کا ارادہ کر لیا ہم نے سوچا کہ پہلے ہم مہمندون میں چلے جائیں گے اور پھر اس جگہ سے افغانستان چلے جائیں گے لیکن ہم بمشکل مہمندون کے علاقے ہی میں پہنچے تھے کہ میرے پیچھے میرے والد صاحب آ گئے اور انہوں نے ہمیں افغانستان جانے سے منع کر دیا۔ وہ ہمیں اپنے زراعتی فارم مہمند ناڑی' لے آئے۔ وہاں ہم حکومت کے ڈر کے مارے کہیں چھپے رہتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے۔

آخر پولیس کو ہمارا پتہ لگ گیا وہ آ گئی اور مجھے گرفتار کر لیا اور مجھے مردان لے جا کر جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے دن مجھے پولیس کپتان کے سامنے پیش کیا گیا اس نے حکم دے دیا کہ۔

Marfat.com

مجھے بیڑیاں پہنا دی جائیں - مجھے پھر جیل خانے لے جایا گیا لیکن سارے جیل خانے میں میرے پاؤں کے ماپ کی بیڑیاں نہ ملیں کیونکہ اس زمانہ میں میری صحت بہت اچھی تھی اور میں بڑا مضبوط و توانا تھا- تب انگریز کے ڈر کے مارے جیل والوں نے میرے پاؤں میں ایسی بیڑیاں ڈال دیں جو میرے پاؤں میں بڑے عذاب سے آتی تھیں- مجھے موٹر میں بٹھا دیا گیا اور میرے ساتھ اسی موٹر میں سپرنٹنڈنٹ پولیس اور مردان کے اسسٹنٹ کمشنر بھی بیٹھ گئے- وہ مجھے پشاور لے گئے اور وہاں مجھے بڑے کپتان کے سامنے پیش کیا پھر مجھے چھاؤنی کی حوالات میں بھیج دیا گیا- جس وقت پولیس مجھے حوالات کی طرف لے جا رہی تھی تو وہ بیڑیاں جو زبردستی میرے پاؤں میں پہنا دی گئی تھیں میرے پاؤں کو ریتنے لگیں- نتیجہ یہ ہوا کہ میرے پاؤں خون بہنے سے لت پت ہو گئے ان کی جلد بالکل ادھڑ گئی - دوسرے دن میرے پاس ایک پولیس انسپکٹر آیا وہ ایک آفریدی پشتون تھا اس نے مجھ سے کہا- "باہر نکل آؤ' تمہاری تاریخ پیشی ہے"-

میں نے اسے جواب دیا- "اجی میرے تو پاؤں بالکل زخمی ہیں اور میں پیدل نہیں جا سکتا

پولیس انسپکٹر بگڑ کر مجھ سے کہنے لگا- "چلے تو کر سکتے ہو لیکن پیشی کے لئے عدالت تک نہیں جا سکتے"-

میں نے اس کے ساتھ بحث میں پڑنا مناسب نہ سمجھا لہٰذا میں نے اسے صرف اتنی بات کہہ دی- "میں پیدل چلنے کے قابل نہیں ہوں' اگر تم ٹم ٹم لے آؤ تو چلا چلوں گا اور اگر ٹم ٹم نہیں لاؤ گے تو نہیں جاؤں گا"-

پولیس انسپکٹر ٹم ٹم لے آیا اور اس میں مجھے بٹھا کر عدالت میں لے گیا مجھے کمرہ عدالت سے باہر بٹھا دیا گیا اور مجھ سے پہلے ایک اور قیدی کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا وہ قیدی ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا- اس نے تار کاٹا تھا اور اس جرم میں دو سال کے لئے قید تھا- اسے آج پھر عدالت میں کیوں پیش کیا گیا تھا' اس بات کا راز اس وقت کھلا جب پیشی کے بعد اس آدمی کو میں نے جیل خانے میں دیکھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کو اس غرض کے لئے اس فوجی عدالت میں لے جایا گیا تھا کہ وہ اس امر کی شہادت دے گا کہ اس نے تار کاٹنے کا جرم عبد الغفار خان کی ہدایت پر کیا تھا' اسے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اگر وہ ایسی شہادت دے دے گا تو اس کو

Marfat.com

دو سال کی قید معاف کر دی جائے گی- لیکن اس آدمی نے ایسی شہادت دینے سے انکار کر دیا-

اس کے بعد مجھے پیش کیا گیا تب ایک کے بجائے تین انگریز عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھ پر کئی طرح کے سوالات کرنے لگے میں کیا جواب دیتا ہم نے تو جلسوں میں کچھ کہا نہیں تھا صرف قرار دادیں منظور کی تھیں-

ایک انگریز نے مجھ پر سوال کیا- "کیا تم حکومت کے خلاف لوگوں میں گھوما پھرا کرتے تھے"-

میں نے اسے جواب دیا- "جن لوگوں کے پیچھے میں پھرتا ہوں وہ سب تمہارے خوانین و ملکان یا جیفس ہیں اور سرکار کے وفادار ہیں"-

سوالات کے بعد انہوں نے پھر مجھے باہر بھیج دیا باہر کچھ وقت تک بٹھایا گیا کیونکہ اندر وہ میرے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے- حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں ہمارے علاقے کے چیف کمشنر سر جارج روس کھل تھے- انہیں پٹھان بہت پسند تھے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے تھے- چونکہ مارشل لاء کے سب سے بڑے افسر وہ خود ہی تھے اور تمام اختیارات انہی کے ہاتھ میں تھے' اس کے لئے وہ کسی کو زور ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے-

ایک گھنٹے بعد سپاہی مجھے جیل خانے میں لے آئے اور مجھے ایک ایسی بیرک میں بند کر دیا گیا جس میں بہت سے کابلی پٹھان بھی مقید تھے- کچھ دنوں کے بعد اچانک میرے ضعیف العمر والد صاحب اپنے لواحقین اور اس جگہ کے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں آ گئے- ابا جان نے جونہی مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ باہر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مجھے پھانسی دے دی گئی ہے اور میں یہاں زندہ تھا-

انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ادھر فوج گئی تھی اور اس نے اتمان زئی گاؤں کا محاصرہ کر لیا تھا- گاؤں کے تمام لوگوں کو مدرسے کے میدان میں جمع کر لیا گیا تھا فوج کے ساتھ توپیں بھی تھیں جب اس نے گاؤں کے لوگوں کو اس طرح ایک جگہ بٹھا دیا تو توپوں کے منہ ان کی طرف پھیر دیئے گئے اور گورے توپچی توپوں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور توپوں سے ایسی آواز پیدا کرنے لگے تھے جو ان کے داغنے سے پہلے پیدا ہوتی ہے- لوگوں کو ایسا لگا کہ انہیں توپوں سے اڑا دیا جائے گا- انہوں نے درود اور قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں تھیں- لیکن توپوں سے گولے برسے تھے اور نہ ہی بندوقوں سے گولیاں چلیں تھیں بلکہ خیر و عافیت سے

Marfat.com

آئی بلاسر سے ٹل گئی تھی لیکن اس سے لوگوں میں زبردست خوف وہراس پھیل گیا تھا۔ ڈر کا یہ عالم تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے محشر کا منظر گھومنے لگا تھا خیر زندگیاں تو ان کی بچ گئیں تھیں لیکن ان فوجیوں نے گاؤں میں لوٹ مار کرنے سے دریغ نہ کیا تھا ہمارے گھر سے ایک انگریز خود ایک شکاری بندوق اٹھا کر لے گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہمارے گاؤں کے لوگوں پر تیس ہزار روپے اجتماعی جرمانہ کیا' لیکن پولیس اور خان بہادر عمر خان نے زور ظلم کے ذریعے گاؤں سے تیس ہزار روپے کی بجائے ایک لاکھ سے بھی زیادہ روپیہ لوگوں سے وصول کیا۔ ایک سو پچاس آدمی گرفتار شدگان میں سے ایک سو آدمیوں کو یرغمال قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جب جرمانہ وصول ہو جائے گا تب یہ رہا کر دیئے جائیں گے۔

اس وقت پولیس نے تو بے حد کوشش کی تھی اور بعد میں بھی کرتی رہی کہ ہمیں افغانستان کی شورش سے وابستہ کر دے اور اس نے ہم میں سے ایک آدمی کو جس کا نام احمد استاد' تھا' سرکاری گواہ بن جانے کے لئے تیار بھی کر لیا تھا' لیکن پولیس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی کیونکہ سرحد کا چیف کمشنر روس کیپل صاحب ہمارے خلاف مقدمہ نہیں چلانا چاہتا تھا۔ تاہم ہمارے گاؤں کے اکثر خوانین کو جیل خانے بھیج دیا گیا تھا لیکن ایک خان جس کا نام محمد عمر خاں تھا وہ انگریزوں یعنی حکومت کا ایسا پٹھو تھا کہ اس نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے لوگوں پر بہت زیادتیاں کیں اور ان پر مظالم توڑے اور لوگوں سے تین تین مرتبہ جرمانہ وصول کیا جب جرمانہ ادا ہو گیا تو وہ ایک سو آدمی رہا کر دیئے گئے اور ساڑھے تیں مہینے بعد وہ دوسرے قیدی چھوڑ دیئے گئے جو گاؤں پر چڑھائی کے وقت پکڑ لئے گئے تھے۔ صرف میں ہی اکیلا رہ گیا تھا' لیکن چھ ماہ کے بعد مجھے بھی رہا کر دیا گیا۔ مصائب اور تکالیف تو ہم نے برداشت کر لیں' لیکن اس سے ہماری قوم کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے پٹھانوں میں سیاسی زندگی کی ابتدا ہو گئی۔

Marfat.com

جیل سے رہائی اور دوبارہ گرفتاری

میں نے اپنی زندگی میں اس وقت تک دو مارشل لاء دیکھے ہیں۔ ایک ۱۹۱۹ء میں انگریزوں کے زمانے میں دوسرا پاکستان بن جانے کے بعد ۱۹۵۸ء میں یہ دونوں مارشل لاء میری طرف سے خواہ مخواہ ایک مختصر اشارہ کر دیئے جانے کے حاجت مند ہیں' تاکہ دونوں حکومتوں کے طرز عمل کا موازنہ کیا جا سکے۔

انگریزوں نے جب مارشل لاء لگایا تھا اس وقت ایک طرف تو افغانستان سے ان کی جنگ جاری تھی اور دوسری طرف ہنگاموں اور تشدد کی کارروائیوں نے اتنا زور پکڑ لیا تھا کہ انگریز نے ملک میں امن و امان کے قیام اور اپنی حکومت کے ڈھانچے کو بحال رکھنے کے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ دیکھا تھا انہوں نے یہ مارشل لاء صرف دو تین مہینے جاری رکھا تھا۔

اب ذرا پاکستان کے مارشل لاء کا بھی تجزیہ کر لیا جائے پاکستان میں امن و امان تھا۔ حکومتی ڈھانچہ' عدالتی نظام اور عوامی تنظیمیں سب اپنی اپنی جگہ قائم تھیں کہ اچانک مارشل لاء لگا دیا گیا اور اس سے غرض یہ تھی کہ چند مخصوص آدمیوں کی حکومت زبردستی سے ملک پر ٹھونس دی جائے۔ لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم کر دیا جائے اور الیکشن کے آگے بند ڈال دیا جائے۔ یہ مارشل لاء قریباً چار سال جاری رہا۔ البتہ نتیجے کے لحاظ سے دونوں مارشل لاء ایک ہی جیسی نوعیت رکھتے تھے۔ انگریزوں کے مارشل لاء نے ہندوستانی عوام میں یہ احساس زندہ کر دیا کہ اس غیر ملکی حکومت کے جوئے سے نجات حاصل کر لینا چاہئے۔ چنانچہ ملک میں آزادی کی تحریک دن بدن زیادہ ہونے لگیں اور انجام کار انگریز مجبور ہو

Marfat.com

گئے کہ دیش کو آزاد کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں - پاکستان کے مارشل لانے بھی عوام الناس میں یہ احساس اور جذبہ مضبوط کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے' بلکہ زور زبردستی' ظلم اور جبر و استبداد کے ذریعے ان کی پیٹھ پر سوار ہو گئی ہے جس طرح انگریز اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے کہ زور' زیادتی اور ستم رانی سے اپنی حکومت کو قائم رکھ سکیں اسی طرح پاکستان کے حکمران طبقے کے لوگ بھی اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ایک دن یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے جیسا کہ انگریز ختم ہو گئے -

میں جب سے رہا ہو کر آگیا تو میں نے لوگوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ دیکھا اور جہاں کہیں بھی ہم غم و خوشی کے موقع پر اکٹھے ہوتے وہاں لوگ ملک و ملت کی باتیں کرتے نظر آتے - اب لوگوں کے دلوں میں وہ خوف بھی نہیں رہا تھا جیسا کہ پہلے رہا کرتا تھا - اس وقت خلافت کی تحریک بھی بڑے زور شور سے شروع ہو چکی تھی - ہندوستانی بھی ایک عجیب قوم ہیں - بیرونی ملکوں میں ان کی بڑی دلچسپی رہتی ہے جتنی دلچسپی ہندوستان کے مسلمانوں نے اس تحریک میں لی تھی اگر اتنی دلچسپی انہوں نے اپنے ملک کی قومی تحریک میں لی ہوتی تو آج وہ دنیا کی قوموں کی صف میں اتنے دور افتادہ اور پسماندہ نہ ہوتے - لیکن پھر بھی اس تحریک نے انہیں بہت بڑا فائدہ پہنچایا تھا اور وہ یہ کہ ان کی تنظیم بن گئی - شہروں کی بات ہی کیا ہے' دیہات میں بھی خلافت کمیٹیاں بن گئیں' لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ یہ اس تنظیم کو قائم نہیں رکھ سکے - وجہ یہ تھی کہ ابھی لوگوں میں تنظیم قائم رکھنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوئی تھی اور جب تک یہ اہلیت پیدا نہیں ہوئی تب تک کوئی قوم یا ملک کسی قسم کی تنظیم قائم نہیں کر سکتا - اہلیت پیدا کرنے کے لئے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے اول صحیح عقیدہ یا راستہ اور دوسرا اس راستے پر چلنے کے لئے صحیح لوگوں کا آگے آنا - جو اس راستے' عقیدے یا مذہب کے علمبردار بن جائیں -

دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انہوں نے اپنی قوم میں ایسے نیک اور پاک و بے غرض لوگ نہیں پیدا کئے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ خدا کے واسطے کمر کس لی ہو تو وہ پیغمبر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے - مذہب بھی ایک تحریک ہی ہوتی ہے اگر اس تحریک میں بے لوث بے غرض اور پاک لوگ شریک ہوتے

Marfat.com

ہیں' جنہوں نے خدا کے واسطے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لئے کمر کس لی ہوتی ہے تو وہ مذہب کامیاب ہوتا ہے - ایسے لوگ خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے ملک و ملت کو بھی سرخرو و شاداب کر سکتے ہیں -

میں جب قید سے باہر آیا تو ماں باپ نے میری منگنی کر رکھی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے - چنانچہ میں اور میرا ایک دوست محمد عباس خاں سودا سلف لینے کے لئے پشاور روانہ ہو گئے جب ہم سرور یاب پہنچے تو پل کے کنارے پولیس ہمارے لئے بیٹھی ہوئی تھی اس نے ہم دونوں کو پکڑ لیا اور ہمیں واپس چارسدہ کے تھانے میں لے آئے اس جگہ سے ہمارا چالان پھر پشاور کر دیا - پولیس افسروں کے ہمراہ جب ہم پشاور پہنچے تو سیدھے سی - آئی - ڈی کے بڑے افسر مسٹر شارٹ کے بنگلے پر لے گئے ہمیں بنگلے کے باہر سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ایک پولیس افسر اندر چلا گیا اور اس نے شارٹ کے پاس ہماری رپورٹ کر دی - ہم سڑک پر کھڑے تھے دیگر پولیس افسر بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے شام کا وقت تھا اور دسمبر کا مہینہ' خوب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی - ہم ایسی سخت سردی میں باہر سڑک پر کھڑے ہوئے تھے اور فرنگی کے لئے کمرے میں آگ جل رہی تھی اور وہ بڑے آرام سے آگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس میں اتنی انسانیت بھی نہ تھی کہ ہماری تکلیف کا ذرہ بھر بھی احساس کرتا میرے ساتھی عباس خاں نے مجھ سے پوچھا "ہماری یہ گرفتاری کس جرم میں ہوئی ہے ؟ اور جب ہمیں پیش کیا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے "-

میں نے اسے کہا "سچ سچ کہہ دینا - خبردار! جھوٹ مت بولنا "-

رات کافی گزر چکی تھی یکا یک عباس کے نام پر آواز آئی - اسے اندر لے جایا گیا اور پھر مجھے بھی شارٹ صاحب کے سامنے پیش کیا گیا' شارٹ طبیعت کے لحاظ سے بڑا سخت آدمی مانا جاتا تھا -

اندر جا کر معلوم ہوا کہ نوشہرہ میں بم پھینکا گیا ہے اور میں اور عباس خاں اسی سلسلے میں گرفتار کئے گئے ہیں شارٹ مجھ پر سوال کرتا تھا اور میں جواب دیتا تھا - میں زور زور سے بولتا تھا اس سے شارٹ جھنجلا کر مجھ سے بولا " آہستہ بات کرو "- پھر جب میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا تو اس نے کہا " زور سے بولو "-

Marfat.com

میں نے اسے کہا "اگر میں زور سے بولتا ہوں تم کہتے ہو کہ آہستہ بولو - اور اگر آہستہ بولتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ زور سے بولو - بہتر یہ ہو گا کہ پہلے تم مجھے باتیں کرنے کا ڈھنگ بتا دو"

اس بات سے شارٹ آگ بگولہ ہو گیا لیکن مجھے اس نے کچھ نہ کہا البتہ اس نے پولیس کو آواز دی اور مجھے اس کے حوالے کر دیا - پولیس والے مجھے صدر تھانہ لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا - اس رات کسی نے مجھے روٹی بھی نہ دی اور میں نے بھوکوں رات گزاری میرا ساتھی عباس مجھ سے جدا کر دیا گیا تھا اسے کہیں کسی دوسرے تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گیا - ایک طرف سردی تھی دوسری طرف حوالات کا فرش سیمنٹ کا بنا تھا - حوالات کی کوٹھری کے دروازے ندارد تھے حوالات میں چند ایک گلے سڑے کمبل پڑے تھے جو بدبو دار اور جوؤں سے بھرے ہوئے تھے - انہیں جب میں دیکھتا تھا تو مجھے کراہت ہونے لگتی تھی لیکن دوسری طرف سردی نے میرا ناک میں دم کر رکھا تھا آخر میں مجبور ہو گیا اور وہی کمبل جسم پر اوڑھ لئے - جب صبح سویرے اٹھا تو میرے کپڑے جوؤں سے بھر چکے تھے مگر "قہر درویش بر جان درویش" میں جوؤں کو پکڑتا اور باہر پھینک دیتا - ایک ہفتہ میں حوالات کی اس کوٹھری میں بند رہا - اس کے بعد پھر مجھے اسی فرنگی شارٹ کے سامنے پیش کیا گیا: جب میں انگریز کے سامنے لایا گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا -

میں نے اسے پوچھا کہ آخر مجھے یہ تو بتایا جائے کہ مجھے کس بنا پر گرفتار کیا گیا تھا اور اب کس طرح مجھے رہا کیا جا رہا ہے؟

اس نے مجھے جواب دیا "میں تحقیقات کر رہا تھا" -

میں نے پھر استفسار کیا "کیا یہ تحقیقات مجھے گرفتار کرنے سے بہتر نہیں کی جا سکتی تھی" -

اس نے جواب یہ دیا "یہ میری مرضی پر منحصر ہے کہ پہلے تحقیق کروں - بعد میں میں کسی آدمی کو گرفتار کروں یا پہلے کسی آدمی کو پکڑ لوں اور پھر تحقیقات کروں" -

میں نے اسے کہا "آخر میں انسان ہوں میری حیثیت کو دیکھو مجھے بلاوجہ اس قدر تکلیف کیوں دی گئی ہے میں کہیں بھاگتا تو نہیں تھا - تم نے تحقیق کی ہوتی اگر میں گناہ گار ثابت ہوتا تو پھر تم مجھے گرفتار کر لیتے" -

اس نے چھوٹتے ہی مجھے روکھا سوکھا جواب دیا "تمہاری پوزیشن ہی کیا ہے؟" میں نے اسے کہا "بہت اچھا....." میں باہر نکل آیا اور اپنے گاؤں کو چلا گیا -

Marfat.com

امان اللہ خان سے ملاقات

1920ء میں میری دوسری شادی ہو گئی - اسی سال دہلی خلافت کمیٹی آل انڈیا کانفرنس ہوئی میں بھی اس کانفرنس میں شامل ہوا - اس کانفرنس میں عزیز نامی ایک جوشیلا نوجوان تھا اس نے ہجرت کی تحریک پیش کی اور کہا کہ ہمیں اس ملک سے ہجرت کرنی چاہئے - یہ بات اس وقت تو ہمیں ایک کھیل نظر آتی تھی، لیکن کھیل سے یہ مذاق اور پھر مصیبت کی شکل اختیار کر گئی - اس مصائب انگیز مذاق نے پٹھانوں کو سب سے زیادہ مالی اور جانی نقصان پہنچایا کانفرنس کے بعد پشاور میں ہجرت کمیٹی بن گئی اور جو بھی اصحاب ہجرت کر کے افغانستان جاتے وہ اسی کمیٹی کے ذریعے جاتے تھے اور یہ ان کے لئے ہر قسم کی سہولت اور آرام کا انتظام کرتی تھی - شروع میں تو انگریزوں کی یہ کوشش تھی کہ لوگ ہجرت کر کے افغانستان نہ جائیں - لیکن جب حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ باز نہیں آتے تو اس نے ایک بات پر زور دیا کہ بے شمار لوگ ہجرت کر کے چلے جائیں - کیونکہ ایک تو وہ افغانستان کے لئے مشکلات پیدا کر دیں گے - دوسرے سرکار اس بہانے سے ہندوستان سے سیاسی کارکن بھی باہر نکال دے گی اور خود بے فکر ہو جائے گی اس طرح انگریزوں نے ہر طرف سے فائدہ اٹھایا

انگریزوں نے مہاجرین کے ساتھ ساتھ اپنے بہت سے تربیت یافتہ جاسوس بھی افغانستان میں بھیج دیئے - ہمارے ملاؤں اور مذہبی رہنماؤں نے فتوے صادر کرنے پر زور لگا رکھا تھا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا بیوی سے تعلق قطع ہو کر طلاق ہو جائے گی - کہتے ہیں کہ ہرنی ویسے ہی تیز گام تھی جب اسے گھنگرو پہنا دیئے گئے تو پھر کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا کہ کدھر چلی گئی -

مردوں سے عورتیں زیادہ تیز ہو گئیں میں نے خود ہجرت کی اور سارا تماشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امان اللہ خان ان لوگوں کو زمینیں دیتا تھا، نوکری بھی دیتا تھا اور تجارت میں حصہ بھی دیتا تھا لیکن انگریزوں کی طرف سے مہاجرین میں بھیجے ہوئے جاسوس یہ پروپیگنڈہ کر رہے تھے کہ "بھائی! ہم یہاں زمینیں لینے تو نہیں آئے، نہ ہی نوکری یا تجارت کرنے کے

Marfat.com

لئے آئے ہیں - ہم تو یہاں جہاد کرنے کے لئے آئے ہیں"۔

امان اللہ خان ان سے کہتا تھا" میں تو انگریز کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا میں تمہیں یہاں ایک نو آبادی دے دوں گا تم لوگ پہلے اپنے اندر انگریزوں سے جنگ لڑنے کی طاقت تو پیدا کر لو - مجھ سے بھی جس قدر ہو سکے گا میں بھی تمہاری امداد کروں گا تمہیں معلوم ہے کہ انگریز تو کالا سانپ ہے مجھے اطمینان سے نیند لینے نہیں دیتا - اس کی طرف سے مجھے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ ابھی مجھے ڈس لے گا"۔

لیکن انگریزوں کے جاسوسوں نے مہاجرین کے درمیان ایسا کام شروع کر رکھا تھا کہ توبہ بھلی - کابل میں بھی ہجرت کا مخالف ایک ایسا ہی گروہ موجود تھا وہ بھی چھپ چھپ کر ہجرت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے اگرچہ امان اللہ خان نے ان مہاجرین کو گرنے سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ لڑھک ہی گئے اور ہجرت ناکام ہو گئی۔

جب میں کابل میں تھا تو ایک دن میں امان اللہ خان سے ملاقات کرنے چلا گیا میں نے ان سے ملاقات کی انہیں اور تو بہت سی زبانیں آتی تھیں لیکن پشتو نہیں جانتے تھے ملاقات کے بعد میں نے ان سے کہا۔

"میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں' بشرطیکہ آپ اجازت دیں"۔

انہوں نے کہا" ضرور کہو اجازت ہے"۔

میں نے ان سے کہا" کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اور زبانیں تو آتی ہیں' لیکن پشتو جو آپ کی اور افغانستان کی قومی زبان ہے' وہ آپ کو نہیں آتی"۔

انہوں نے یہ بات محسوس کی اور جلد ہی انہوں نے پشتو بھی سیکھ لی اس وقت نادر خان وزیر جنگ تھے اور سردار داؤد خان کے باپ سردار عبدالعزیز خان وزیر تعلیم تھے - ان بھائیوں سے میرے اچھے تعلقات تھے سردار عبدالعزیز خان نے ایک دن مجھے کہا کہ میں حبیبہ کالج دیکھنے جاؤں میں وہاں گیا کالج کے پرنسپل کی اجازت سے میں نے بعض جماعتوں کے لڑکوں سے سوالات پوچھے۔

"شما کیستی"؟ تم کون ہو ؟

انہوں نے جواب دیا" افغان بستم" ہم افغان ہیں

میں نے پھر انہیں کہا" ملک شما؟"

لڑکوں نے جواب دیا" افغانستان"۔

Marfat.com

"زبان شما؟"

"افغانی"۔

میں نے ان سے پھر پوچھا "شمے دانی؟" تم وہ جانتے ہو

انہوں نے کہا "نے" اور وہ چپ ہو گئے آنکھیں نیچی کر لیں۔

میں نے انہیں کہا "بگو آغا بگو"۔ کہو آقا کہو بھی

جواب ملا "نمے دانم" میں نہیں جانتا

اب میں نے انہیں کہا کہ "خوب افغان ہستی' افغانی نمے دانی" تم خوب افغان ہو کہ اپنی افغانی زبان نہیں جانتے

محمود طرزی افغانستان کے وزیر خارجہ تھے' وہ ایک نہایت قابل اور لائق انسان سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اس میں میں بھی مدعو کیا گیا۔ وہاں ضیافت میں شریک ہوئے اصحاب میں زبان کے سوال پر بحث چھڑ گئی اس موقع پر محمود طرزی نے فرمایا "ہمارے لوگ فارسی بھی بولتے ہیں اور پشتو بھی"۔

جواب میں میں نے ان سے کہا "پشتو تو افغانستان کی قومی زبان ہے ہم تو فارسی بولنے سے کسی کو منع نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی زبان کیوں بھلا دی ہے؟ پھر یہ تو اکثریت کی زبان ہے۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے اس وقت ہندوستان کی ایک بھی زبان ان کی اپنی زبان نہیں تھی اور نہ ہی ہندوستان میں کسی کو ان کی زبان آتی تھی۔ لیکن انہوں نے ہندوستان کی کسی بھی زبان کو حکومت کے کاموں میں رائج نہیں کیا تھا اور اپنی ہی زبان کو سرکاری زبان بنایا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان میں کروڑوں لوگوں نے اسی زبان کو سیکھ لیا ہے اور آج ہندوستان کے بعض حصوں کے لوگ دوسرے حصے کے لوگوں کی زبان تو نہیں سمجھتے' لیکن ہندوستان کا ایسا کوئی حصہ نہیں جسے انگریزی نہ آتی ہو۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے اپنی افغانستان کی قومی زبان پشتو اس ملک میں رائج کی ہوتی اور اسے سرکاری زبان بنایا ہوتا تو آج اس ملک میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوتا جو پشتو نہ سمجھتا اور اس ملک اور قوم نے بڑی ترقی کی ہوتی کیونکہ قوم کی ترقی اس کی اپنی زبان سے ہوتی ہے"۔

Marfat.com

Marfat.com

انجمن اصلاح الافاغنہ کا قیام

ہمارے صوبے سے ہجرت کر کے جتنے بھی لوگ افغانستان گئے وہ سب واپس چلے آئے میرے بعض ساتھی تاشقند چلے گئے اور میں چند ساتھیوں کے ہمراہ باجوڑ چلا آیا تاکہ یہاں ان آزاد قوموں کی بستیوں میں مدرسے قائم کئے جائیں - دیر کے علاقے میں خالو' نام کے ایک گاؤں میں ہم نے ایک مدرسہ بھی کھول دیا اور اس میں مولوی فضل محمود صاحب مخفی کو اس کا انچارج بنا دیا-اس گاؤں کے لوگوں میں تعلیم کا بہت شوق ہے اور ان کے بچے بڑے ذہین ہیں- لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا-کلب نامی ایک انگریز جو ملاکنڈ کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا اور ہمارے ہاں اسسٹنٹ کمشنر بھی رہ چکا تھا وہ پٹھانوں کی اس تحریک کا بہت سخت مخالف اور دشمن تھا اس نے نواب دیر کو بلا بھیجا اور اسے متنبہ کیا" دیکھو' اس تعلیم نے ہمارے لئے کتنی مشکلات پیدا کی ہیں اب تم اپنے لئے مشکلات مت پیدا کرو - یہ مدرسہ جو تمہارے علاقے میں کھلا ہے اسے فوراً تباہ کر دو" نواب نے مدرسہ مسمار کر دیا-

اس قسم کے حالات تھے جن میں ہمیں کام کرنا پڑا اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی دشواریوں کا سامنا ہوتا تھا-

میں نے حتی المقدور اس سمت میں کوششیں--- جاری رکھیں اور دیر اور باجوڑ دونوں ریاستوں کا دورہ کیا میرے جو ساتھی تھے وہ سب چلے گئے ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ رہا چونکہ اب میں یکسر اکیلا رہ گیا' اسی لئے میں بھی واپس چلا آیا-

اب میرے دل میں پھر وہی خیال موجزن ہو گیا کہ وہ مدرسے جو انگریزوں نے جنگ کے زمانے میں بند کر دیئے تھے انہیں پھر سے جاری کر دینے کی کوشش کروں-

یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت اور کانگریس ایک ہی اسٹیج پر جلسے کرتے تھے انہی دنوں علی

Marfat.com

گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کوئی تقریب تھی میرے اور میرے دوست قاضی عطاءاللہ کے نام دعوت نامے آئے ہم دونوں علی گڑھ چلے گئے پھر ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم خلافت کے جلسے میں بھی شرکت کریں گے۔

علی گڑھ یونیورسٹی میں ہمارے صوبہ کے بہت سے طلباء تعلیم پا رہے تھے ہم نے ان سے تبادلہ خیالات کیا ان میں ایسے طلبا بھی تھے جنہوں نے ترک موالات کی وجہ سے کالج چھوڑ دیا تھا۔ یہ دسمبر ۱۹۲۰ء کے آخری دن تھے میں اور قاضی صاحب بوجہ مصروفیت خلافت کانفرنس کے جلسے میں شامل نہ ہو سکے اور واپس اپنے گاؤں چلے آئے۔ انہی دنوں میرے بھائی ڈاکٹر خان صاحب تقریباً پندرہ سال کے بعد انگلینڈ سے واپس آگئے تھے۔ جنگ کے زمانے میں جب انہوں نے ڈاکٹری پاس کر لی تھی اسی وقت وہاں فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اب وہ کپتان تھے اور مردان کے گائیڈز میں تعینات تھے۔

فروغ تعلیم کے لئے ہماری کوششیں جاری تھیں۔ ۱۹۲۱ء میں ہم نے اتمان زئی میں دوستوں کی امداد سے ایک آزاد ہائی اسکول کی بنیاد ڈالی اس اسکول میں قاضی صاحب عطاء اللہ، میاں احمد شاہ، حاجی عبدالغفار خان، خان محمد عباس خان، عبدالاکبر خاں، تاج محمد خاں، عبد اللہ شاہ اور خادم محمد اکبر خان میرے ساتھی تھے۔

میں نے ایک انجمن بنائی جس کا نام رکھا "انجمن اصلاح الافاغنہ"۔ ہمارے اسکول میں استادوں کی قلت تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ تھوڑی تنخواہ پر اچھے استاد ملتے نہیں تھے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ استادوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دے کر ان کی خدمات حاصل کر سکتے، اس لئے میں خود لڑکوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا انہی دنوں لاہور میں خلافت کانفرنس منعقد ہوئی ہم بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ضلع بنوں کے میرا خیل، گاؤں کے امیر مختار خان سے میری ملاقات ہوئی وہ بھی اسی جلسے میں شریک ہونے کے لئے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے دو صاحب زادے بھی تھے جن میں بڑے صاحب زادے کا نام امیر ممتاز خان اور چھوٹے کا نام مقصود جان تھا یہ دونوں بھائی پشاور اسلامیہ کالج میں بی۔اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی تحریک ترک موالات کی وجہ سے کالج چھوڑ دیا تھا۔ یہ دونوں لڑکے ان کے باپ نے ہمارے اسکول کے لئے دے دیئے

Marfat.com

مقصود جان ہمارے اسکول میں سب سے پہلا ہیڈ ماسٹر تھا اور جب وہ دوبارہ اپنی تعلیم جاری کرنے کے لئے واپس پشاور چلا گیا تو اس کی جگہ اس کا بھائی امیر ممتاز خان ہمارے مدرسے کا ہیڈ ماسٹر ہو گیا۔

انگریزوں کو ہمارا یہ مدرسہ پسند نہیں تھا ہمارے مدرسے میں جو بھی معلم آتا ان کی طرف سے اسے ڈرایا دھمکایا جاتا اور جب ڈرانا دھمکانا کارگر ثابت نہ ہوتا تب زیادہ تنخواہ دینے کا لالچ دے کر ہم سے اسے لے جاتے اسی طرح مقصود جان بے چارہ جب کبھی اتمان زئی آتا تھا تو پولیس اسے پریشان کرنے کے لئے کئی ہتھکنڈے استعمال کرتی' یہاں تک کہ اسے سخت تکلیف پہنچانے میں دریغ نہ کرتی۔

تحریک خلافت کے سلسلے میں ہم سرگرم رہتے تھے' لیکن دشواریاں اس راہ میں بھی کم نہ تھیں پشاور میں تحریک خلافت کے مسئلے پر ہمارے ساتھیوں میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی اور ان کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک دن حاجی جان محمد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے شاہی باغ میں ایک جلسہ عام منعقد کیا اور اس جلسے میں یہ تجویز کی کہ کیا آپ لوگوں کو حاجی جان محمد صاحب خلافت کمیٹی کے صدر منظور ہیں' لوگوں نے اس تجویز کی زور شور سے تائید کی اور وہ صدر بن گئے۔ دوسرے دن پشاور کے ایک سید صاحب اور ان کے ساتھی جمع ہو گئے انہوں نے بھی جلسہ بلالیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ سید صاحب آل رسول ہیں اور انہوں نے خدمات بھی کی ہیں' اس لئے حاجی جان محمد صاحب سے ان کا حق زیادہ ہے مناسب یہ ہے کہ انہیں خلافت کمیٹی کا صدر بنایا جائے لوگوں نے چلانا شروع کیا کہ "منظور ہے' منظور ہے"

Marfat.com

Marfat.com

جیل کے دن اور جیل کی راتیں

اس قسم کے حالات کے درمیان خلافت تحریک کا کام چل رہا تھا کارکنان کے درمیان دن بدن کشمکش بڑھ رہی تھی اور بیچ بیچ میں کچھ بھی کام نہیں ہوتا تھا کارکنوں کی طرف سے کسی ایک آدمی پر اتفاق نہیں کیا جاتا تھا پشاور کے لوگ اچھے کام کرنے والے تھے' لیکن اس بے اتفاقی نے ان کو بے کار بنا رکھا تھا- میں کبھی کبھار خلافت کے دفتر میں جایا کرتا تھا تو دونوں فریق مجھ سے یہی باتیں کہتے تھے دونوں پارٹیوں کے میرے ساتھ اچھے تعلقات اور بہت پیار و محبت تھی- مجھے دونوں کہا کرتے تھے کہ ہمارا دونوں پارٹیوں کا تمہارے اوپر اعتماد کا اتفاق ہے' لہٰذا بہتر یہی ہو گا کہ آپ صدارت منظور کر لیں لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ میں صدارتوں اور عہدوں کا شوقین نہیں تھا اور میں ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا- آخر مجھے انہوں نے مجبور کیا اور میں نے اس شرط پر ان کی صدارت منظور کر لی کہ صوبہ سرحد میں جس قدر چندہ جمع ہو گا' اسے اسی صوبہ میں تعلیم پر خرچ کیا جائے گا اور دوسری کسی طرف بھی نہیں لگایا جائے گا میں خلافت کمیٹی کا صدر بن گیا اور عبدالقیوم خان سواتی سیکرٹری ہو گئے-

میں اسکول کے کام سے بے فکر ہو گیا اور میں نے میاں احمد شاہ کے علاقے میں دورے شروع کر دیئے- ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے تبادلہ خیالات کے مواقع حاصل ہوں گے دوسرا یہ کہ اپنے وہ پرانے مدرسے پھر سے جاری کئے جا سکیں گے- ہمارے مدرسے کو جاری ہوئے ابھی چھ مہینے ہوئے تھے کہ ہمارے صوبہ کے چیف کمشنر نے میرے والد صاحب کو بلا

Marfat.com

پیکوران سے کہا۔"دیکھو، سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارا یہ لڑکا گاؤں گاؤں میں پھر رہا ہے، دورے کر رہا ہے اور مدرسے کھول رہا ہے جب دوسرے لوگ نہیں کھولتے تو تم بھی مہربانی کرو۔ اپنے اس لڑکے سے کہہ دو کہ یہ بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جائے"

جب میرے والد صاحب گھر آئے تو مجھے خلوت میں لے جا کر کمشنر صاحب کی وہ سب باتیں کہہ دیں اور ساتھ ہی سمجھایا "بچہ! آرام سے بیٹھو جب دوسرے لوگ نہیں کرتے تو تم بھی مت کرو"۔

میں اباجان کی اس بات سے بہت پریشان ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ دیکھو، یہ انگریز لوگ اپنے مطلب کے لئے باپ بیٹے میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب ایک مذہبی خیال آدمی تھے میں نے ان سے عرض کیا "اگر یہ تمام لوگ نماز ادا نہ کریں تو اباجان! آپ مجھے یہ تو نہ کہیں گے کہ نماز ادا نہ کرو؟"

والد صاحب نے جواب دیا "واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز تو ایک فرض ہے"

میں نے انہیں کہا "بس جس طرح نماز ایک ضروری فرض ہے اسی طرح علم اور قوم کی خدمت بھی فرض ہے"۔

اب اباجان نے مجھے بڑی سنجیدگی کی ساتھ کہا "اچھا اگر یہ فرض ہے تو پھر کرتے رہو" یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور انہوں نے لاٹ صاحب سے کہہ دیا کہ "صاحب بہادر! ہم تمہارے لئے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے"

تھوڑے دنوں کے بعد حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا مجھ سے ضمانت طلب کی گئی میں نے انکار کیا تو ۱۹۲۱ء کو ایف سی آر دفعہ ۴۰ کے تحت مجھے تین سال کے لئے قید سخت کی سزا دی گئی۔ اس وقت جیل خانے بھی عجیب قسم کے ہوتے تھے خوراک، خوراک کی طرح نہیں ہوتی تھی اور کپڑے کپڑے کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا ایک باپ بیٹا دونوں بیک وقت قید ہوئے تھے جب ان کے اپنے کپڑے اتروا لئے گئے اور جیل کے کپڑے انہیں پہنادیئے گئے تو وہ بیٹا بے چارہ ان کپڑوں میں اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا کہ "اے بابا! تم کدھر چلے گئے" باپ نے اسے کہا۔ بیٹا! میں تو تمہارے پاس ہی کھڑا ہوں"۔

یہ حال تو ان باپ بیٹے کا تھا اس روشنی میں اندازہ کیجئے کہ مجھ جیسا آدمی جس کی قید بھی

Marfat.com

لمبی ہو اور بدن بھی توانا ہو اس کا کیا حال ہوا ہو گا؟ میں نے جب جیل کے کپڑے پہن لئے تو میری شلوار پنڈلیوں سے اوپر تھی اور اس کا آسن تنگ ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا اور قمیص میری کمر تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔

اس زمانے میں جب کوئی آدمی قید ہو جاتا تھا تو پہلے پہل اسے قید تنہائی کی کوٹھری میں بند کرتے تھے اس کو بیس سیر اناج پیسنے کو دیا جاتا تھا اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جاتی تھیں اور اس کے گلے میں لوہے کی گول کڑی ہنسلی ہوتی تھی جس میں ایک چھوٹی سی چوبی تختی لٹک رہی ہوتی تھی اس تختی پر قیدی کے جرم کی دفعہ اور قید کی میعاد لکھی رہتی تھی۔

اس جیل خانے کا داروغہ ایک ہندو تھا وہ ایک تو دیانت دار تھا دوسرے وہ قوم پرستوں سے ہمدردی بھی کرتا تھا اس نے مجھے تنہائی والی کوٹھری میں تو بند کر دیا تھا' لیکن چکی پیسنے کو نہیں دی تھی اور نہ ہی اس نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈالی تھی۔ جیل خانے کی روٹی تو دیتا تھا لیکن وہ قدرے اچھی ہوتی تھی اور دال و ساگ بھی کھانے کے قابل تھا ہماری چکی قید تنہائی والی کوٹھری کا رخ شمال کی طرف تھا اس میں دھوپ بالکل نہیں لگتی اور اس میں بڑی سخت سردی تھی۔

مجھے تین کمبل اور ایک بوری کی قسم کا ٹاٹ دیئے گئے تھے لیکن اس میں گزارہ کرنا بڑا محال تھا۔ اس کے علاوہ ہم دن رات کوٹھری میں بند رہتے تھے جب کبھی کسی اچھے جمعدار کی ڈیوٹی لگ جاتی تو ہمیں ایک آدھ گھنٹے کے لئے کوٹھری سے باہر نکال لیتا اور ہم لوگ دھوپ میں بیٹھ جاتے۔ ایک تکلیف یہ تھی کہ ہم رات کو بھی آرام سے نیند نہیں لے سکتے تھے کیونکہ تین تین گھنٹے کے بعد ہمارے پہرے داروں کی تبدیلی ہوا کرتی تھی لہٰذا ایک کے بعد جب دوسرا پہرہ دار آتا تو پہلے وہ قفل کو کھٹکھٹاتا پھر آواز دیتا کہ "بول بھئی!" جب تک اسے جواباً آواز نہیں دی جاتی تو وہاں سے ٹلنے کا وہ نام نہ لیتا اگر قیدی کی طرف سے آواز دینے میں تھوڑی سی سستی ہو جاتی تو دوسرے دن اس کو سزا ملا کرتی۔

مجھے جس وقت گرفتار کر کے پشاور جیل میں پہنچایا گیا تھا تو مجھے حوالات میں بند کرنے کے جیل خانے کی "قصوری چکی" کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ جب میں چکی کے اندر داخل ہو رہا تھا (یہاں چکی سے مراد وہ کوٹھری ہے جس میں قیدی سے مشقت لینے کے لئے چکی رکھی رہتی ہے) تو چکی میں بڑی بدبو تھی کیونکہ اس میں پاخانے سے لبالب بھرا ہوا مٹی کا بڑا تن پڑا ہوا تھا۔

Marfat.com

میں نے جیل خانے کے افسر سے کہا کہ یہ چکی بہت گندی ہے تو اس نے مجھے جواب دیا کہ "یہ جیل خانہ ہے" اور مجھے چکی کے اندر دھکیل دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔

مجھے گرفتار کئے جانے کے بعد خلافت تحریک کے اور ساتھی بھی گرفتار کر لئے گئے تھے اور ایسی ہی چکیوں میں انہیں بند کیا گیا تھا۔ ہم چوبیس گھنٹے ان چکیوں میں بند رہتے تھے' روٹی بھی ہمیں چکیوں میں جنگلے کی سلاخوں میں سے دی جاتی تھی صرف اس وقت ہماری چکیوں کے دروازے کھولے جاتے تھے جب جیل خانے کا بھنگی صفائی کے لئے آتا تھا۔ چکیوں کے باہر ہم پر ہر وقت وہیل پہرہ لگا رہتا تھا تاکہ کوئی شخص ہمارے نزدیک نہ پھٹک سکے نہ ہمارے ساتھ باتیں کر سکے اس ظالمانہ سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اور ساتھیوں نے ضمانتیں داخل کر دیں اور صرف میں نے اور عبداللہ خان سواتی نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور ہم دونوں کو تین تین سال قید سخت کی سزا دے دی گئی مجھے تین سال قید کی سزا کا یہ حکم کیسے سنایا گیا' یہ قصہ بھی سننے کے قابل ہے جب جیل خانے میں آئے ہوئے مجھے دس دن ہو گئے تھے تو مجھے چکی سے نکالا گیا تھا اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

ڈپٹی کمشنر ایک عجیب قسم کا انگریز تھا اور میرا مقدمہ بھی عجیب ہی تھا جب مجھے پولیس نے اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے میرے جرم کی بابت پوچھا پولیس نے اسے بتلایا کہ ایک تو اس نے ہجرت کی ہے اور دوسرے اس نے آزاد اسکول قائم کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں کہا "جب اس نے اس ملک سے ایک دفعہ ہجرت کی تھی تو پھر اسے واپس کیوں اس ملک میں آنے دیا گیا اور اسے ادھر داخل ہونے کی اجازت کیوں دی گئی؟"

میں نے اسے کہا کہ "افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک تو تم لوگوں نے ہم سے ملک لے لیا ہے اور اب اس میں ہمیں رہنے بھی نہیں دیتے ہو"۔

میرا یہ کہنا تھا کہ صاحب بہادر اور بھی جل بھن گیا اور پولیس کو حکم دیا "جاؤ اسے یہاں سے دور کرو' میں نے اسے تین سال قید کی سزا دے دی ہے"۔

پولیس مجھے لے آئی اور جیل والوں کے حوالے کر دیا۔

اس وقت جیل خانے میں قیدیوں کے لئے اپنے پاس کھانے کی چیز رکھنا بھی جرم تھا میں اپنی چکی (تنہائی کوٹھری) میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران میں ہمارے گاؤں کا ایک قیدی نمبردار آیا اس نے میری چکی پر دو ٹکڑے گڑ کے رکھ دیئے اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس

Marfat.com

پہرے دار نے جس کا ہم پر پہرہ تھا مجھے کہا کہ جیلر صاحب آ رہے ہیں یہ سن کر مجھے اس گڑ کی فکر ہو گئی کہ اب اس کا کیا کروں گا کبھی سوچا کہ کمبل کے نیچے چھپالوں۔ کبھی خیال کرتا کہ ٹاٹ کے نیچے دبادوں پھر خیال آیا کہ اگر یہ کمبل جیلر نے اوپر اٹھالیا تو میں کیا جواب دوں گا بہر حال وہ گڑ میں نے چھپالیا۔

داروغہ صاحب آئے تلاشی نہیں لی اور واپس چلے گئے اس وقت قیدیوں کی روزانہ تلاشیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب داروغہ صاحب چلے گئے تو میں نے وہ گڑ اٹھالیا اور ریلیر پھینک دیا پھر میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جیل خانے میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا' جو جیل خانے میں ممنوع اور جیل کے قانون کے خلاف ہو گا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے میں نے اپنے بہت سے ایسے سیاسی بھائیوں کو دیکھا تھا جو اس قسم کے کام کرتے تھے تو وہ جیل والوں کی بڑی خوشامدیں کرنے کے علاوہ انہیں سلام بھی کیا کرتے تھے

کچھ دنوں کے بعد مجھے ملنے کے لئے ڈاکٹر خان صاحب اور کچھ دوسرے لوگ آئے تھے وہ میرے لئے حکومت کا پیغام بھی لائے تھے حکومت کے پیغام میں یہ پیش کش کی گئی تھی کہ میں مدرسے بے شک کھول لوں مگر یہ دورے بند کر دوں اگر دورے کرنے بند کر دوں گا تو سرکار مجھے جیل خانے سے رہا کر دے گی لیکن میں نے حکومت کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ ان چکیوں میں میرے ساتھ اور بھی بہت قیدی بند تھے ان میں چمرکند کے مجاہدین بھی شامل تھے۔ میں جب کابل سے باجوڑ آیا تھا تو چمرکند میں ان مجاہدین سے ملنے گیا تھا اور انہیں میں نے بہت سمجھایا تھا کہ خیال رکھنا سرحد اور پنجاب کی طرف مت آنا کیونکہ ان کے کچھ آدمی گرفتار ہو چکے تھے۔ دوسری نصیحت میں نے انہیں یہ کی تھی کہ چندوں کے پیچھے تم لوگ کتنے دنوں تک پھرتے رہو گے' کیوں نہ تم اپنے یہاں کھڈیوں کا کوئی کام دھندا شروع کر دو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس خچریں بھی موجود ہیں اور تمہارے قریب کنڑ کا افغان علاقہ ہے وہاں قسم قسم کے میوے ہوتے ہیں اگر تم لوگ وہی میوے خریدو اور انہیں مہمندوں کے علاقے میں بیچو تو اس سے تمہارا اچھا گزارہ ہوتا رہے گا اور دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے تمہیں نجات بھی مل جائے گی۔

یہ نصیحت میں نے انہیں اس لئے کی تھی کہ ان کے علاقے میں ایک دو دن رہ کر ان

Marfat.com

کے حالات و عادات کا مطالعہ کیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ بیکار پڑے رہتے تھے۔

یہ مجاہدین بونیر سے یہاں آئے تھے وہاں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا تھا یہ پنجابی تھے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان پنجابی بھائیوں کی فطرت میں پارٹی بازی اور جھگڑے فسادات بھرے ہوئے ہیں اور بونیر میں جو مجاہدین ہیں ان میں اکثریت بنگالیوں کی تھی اور وہ آپس میں پیار و محبت سے رہ رہے تھے' لیکن ان میں جونہی یہ پنجابی شریک ہو گئے تو انہوں نے گروہ بندیاں اور جھگڑے فساد شروع کر دیئے تھے اور انجام کار انہوں نے امیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چنانچہ انہیں بونیر سے نکال دیا گیا تھا تب یہ لوگ چرکند آ گئے تھے یہاں بھی ان میں پارٹی بازی جاری تھی ان کا لیڈر مولوی فضل الٰہی ایک بہت بڑا پارٹی باز اور خطرناک آدمی تھا کابل سے واپس آتے ہوئے میں نے اسے کابل میں دیکھا تھا اور میں نے اسے بڑی نصیحت کی تھی یہ اسی فضل الٰہی نے ایک نہایت اچھے کارکن مولوی بشیر کو اسی ساز باز اور پارٹی بازی کی وجہ سے قتل کر دیا تھا مولوی بشیر ایک نہایت نیک اور مخلص کارکن تھے۔

جیل خانے میں ان مجاہدین کا بہت برا حال تھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو بڑی سختی سے زدوکوب کیا کرتے تھے لیکن میرے آتے ہی ان کی حالت بہتر ہو گئی ان کا ایک آدمی جو قرآن شریف کا حافظ بھی تھا اسے پولیس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا ان میں جو بھی آدمی کام کا ہوتا تھا اسے وہ حافظ قرآن پولیس کو دکھلا دیا کرتا تھا اور خود کھسک جاتا تھا اور چرکند سے اسی بہانہ سے اس آدمی کو روانہ کر دیتا تھا کہ چلو فلاں جگہ چلیں' چندہ خوب ملے گا۔ اسی طرح جب اسے اپنے ساتھ لے کر مقررہ جگہ پہنچ جاتا تھا تو اس بے چارے کو پولیس کی تحویل میں دے دیا کرتا تھا یہ قصہ ان مجاہدین نے مجھے سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ حافظ قرآن پھر نئے شکار پھانسنے کے لئے گیا ہوا ہے اب کے اس کی نظر ہمارے بہت اچھے اور ممتاز کارکن پر ہے اسے پولیس کا یہ جاسوس حافظ قرآن اپنے جال میں پھنسا کر یہاں لے آئے گا اس لئے کوئی ایسا انتظام ہو جائے جس سے چرکند میں یہ اطلاع پہنچ جائے کہ اس حافظ قرآن کے ساتھ کوئی بھی شخص آنے کا نام نہ لے۔

ان مجاہدوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ "یہاں ایک ممبند بھی ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد رہا ہونے والا ہے اس کا گھر چرکند کے نزدیک ہے اور اگر میں ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ دوں تو

Marfat.com

یہ رقعہ اس ممند کے ہاتھ چمر کند پہنچوا دیں گے اس طرح ان کے وہاں کے مجاہدین کو اطلاع مل جائے گی اور وہ اس حافظ قرآن کے دام میں نہیں آئیں گے" پہلے میرا ارادہ اس قسم کا رقعہ لکھ کر دینے کا نہیں تھا لیکن جب میں نے سوچا کہ یہ تو ان لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی مصیبت اور عظیم نقصان ہے تو پھر میں نے ایک مختصر خط لکھا اور جس دن وہ ممند رہا ہونے والا تھا اس سے ایک دن پہلے ہم نے اسے وہ خط دے دیا۔

اس جیل میں عام قیدی تو ان چکیوں میں ایک ہفتے تک بند کئے جاتے تھے لیکن مجھے بند ہوئے دو مہینے ہو گئے تھے دو ماہ کے بعد مجھے اس جیل خانے سے ڈیرہ اسماعیل خاں کے اخلاقی مجرموں کے لئے مخصوص جیل میں منتقل کرنے کے لئے روانہ کر دیا گیا۔

Marfat.com

Marfat.com

ڈیرہ غازی خاں جیل منتقلی

مجھے ڈیرہ اسماعیل خاں پہنچا دیا گیا لیکن پشاور سے لے جاتے وقت مجھے پھر جو دوسرے دن بیڑیاں پہنائی گئی تھیں وہ میرے پاؤں سے نہ نکالی گئیں اور مجھے چکی میں بند کر دیا گیا پھر دوسرے دن مجھے بیس سیر گندم پیسنے کے لئے دے دی گئی لیکن یہ اچھا ہوا کہ اس گیہوں میں ایک دانہ بھی ثابت نہیں تھا سب کیڑوں نے کھا رکھے تھے لہٰذا گندم پیسنے میں مجھے چنداں تکلیف نہ ہوئی اس جگہ کا داروغہ ایک بوڑھا مسلمان تھا وہ سپاہی کے عہدے سے داروغہ بنا تھا۔

وہ انگریزی نہیں جانتا تھا پنشن پر ریٹائرڈ ہونے والا تھا جیل خانے کا سپرنٹنڈنٹ ایک انگریز تھا جو انگریزی کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔اس وجہ سے جیل خانے کا سارا کام گنگارام ہی کیا کرتا تھا وہ ڈپٹی جیلر تھا۔داروغہ بہت نیک انسان تھا لیکن گنگارام سخت رشوت خور اور غلیظ آدمی تھا وہ رشوت حاصل کرنے کے لئے قیدیوں کو آپس میں لڑاتا بھڑاتا تھا ایک دن میں چکی پیس رہا تھا تو اس اثناء میں داروغہ صاحب آگئے اور انہوں نے مجھ سے کہا "یہ چکی تم مت پیسو"۔

میں نے پوچھا "کیوں"؟

انہوں نے جواب دیا "میں خدا کو کیا جواب دوں گا جب وہ مجھے کہے گا کہ اس جیل خانے میں چودہ سو قیدی موجود تھے ان میں ایک خدا کے واسطے آیا تم نے اس سے بھی چکی پسوائی تھی؟"

میں نے ان کی دل جوئی کے لئے چکی پیسنا بند کر دیا اور جب وہ باہر چلے گئے تو میں نے پھر چکی پیسنا شروع کر دیا وہ باہر کھڑے ہو کر دروازے کے ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے مجھے دیکھ رہے تھے وہ پھر میری اسی کوٹھری کے اندر آگئے اور بولے "تم یہ چکی کیوں پیستے ہو؟"

Marfat.com

میرے عین سامنے چکیوں کی اس دوسری قطار میں ایک آدمی چکی پیس رہا تھا میں نے داروغہ صاحب سے کہا" آپ اس آدمی کو دیکھیں' یہ ایک قتل اور راہزنی کا مجرم ہے اور اسی گندے مقصد کی بدولت یہ چکی پیس رہا ہے مگر میرا مقصد تو بڑا نیک وپاک ہے تو میں اپنے اس پاک مقصد کی بدولت چکی کیوں نہ پیسوں؟"

دوسرے دن داروغہ صاحب نے چکیوں کے جمعدار کو میرے متعلق یہ حکم دیا کہ مجھے آئندہ گیہوں کی بجائے آٹا دیا جائے- دوسرے دن جب جمعدار میرے پاس آٹا لے کر آئے تو اس کے ساتھ تھوڑے سے دانے بھی تھے یہ دونوں چیزیں میرے حوالے کرتے ہوئے جمعدار نے مجھ سے کہا" جب صاحب آئے تو یہ گیہوں پیسنا"-

میں نے ان سے کہا" اگر صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہیں آٹا دیا جاتا ہے یا گیہوں؟ تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور ان سے کہہ دوں گا کہ مجھے آٹا دیا جاتا ہے"-

جمعدار بولے" پھر تو میں نوکری سے بھی جاؤں گا"-

میں نے ان سے کہا" لیکن میں تو آپ کو موقوف نہیں کرانا چاہتا میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے دانے گیہوں دیا کیجئے-"

اس جیل خانے کی خوراک بہت خراب تھی- روٹی میں اتنی مٹی ہوتی تھی کہ انسان اسے چبا نہیں سکتا تھا اور جو ساگ ہمیں دیا جاتا تھا اسے تو میں نے بلی کے آگے رکھا تھا لیکن اس نے نہیں کھایا- داروغہ صاحب نے مجھے بہتیرا کہا کہ وہ مجھے کھانا اپنے گھر سے بھجوا دیا کریں گے' لیکن میں نے منظور نہ کیا جو آدمی دودھ بانٹا کرتا تھا وہ مجھے دودھ دینا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لیا کرتا تھا کیونکہ دودھ میرے ٹکٹ پر نہیں لکھا گیا تھا- ڈاکٹر صاحب اس آدمی کو کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے دودھ دیا کرے لیکن میں دوسرے کا حصہ نہیں لیتا تھا ادھر گنگا رام تھا کہ اس نے میرے پاس اپنے ایجنٹ بھیجنے شروع کر دیئے وہ مجھے کہا کرتے تھے" دیکھو' گنگا رام کو کچھ دے دو ایسا کرنے سے تمہیں چکی قید تنہائی کی کوٹھری سے نکال دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پشلوریوں کے لئے یہ شرم کی بات ہے کہ تم چکی میں بند رہو اور گیہوں پیستے رہو اور اگر تم کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تو ہم اپنی جیب سے دے دیں گے"-

میں ان کی باتیں سن کر حیران ہوتا اور کہتا" بھئی' رشوت دینا اچھا کام نہیں ہوتا اس لئے نہ رشوت آپ دیں اور میں تو خیر کبھی دینے کا نہیں ہوں آپ نہیں جانتے کہ میں محض اس

Marfat.com

لئے سزائے قید بھگت رہا ہوں کہ میں ضمانت دینے سے انکاری ہوں۔ اگر مجھے رشوت ہی دینی ہوتی تو میں ضمانت کیوں نہ دے دیتا تاکہ قید کی اذیت نہ اٹھانی پڑتی"۔

اس جیل خانے میں لڑکے قیدیوں کا بہت برا حال تھا جس کسی نے بھی گنگارام کو پانچ روپے دے دیئے وہ اپنی پسند کے لڑکے کو یا تو اپنے ساتھ چکی والی کوٹھری میں بند کر لیتا تھا یا اسے اپنے ساتھ بارک میں لے جاتا تھا ایک دن میں نے داروغہ صاحب سے کہا" آپ ایک اچھے نماز گزار آدمی ہیں لیکن خدا کو اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کے جیل خانے میں مسلمان بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے پشاور کے جیل خانے میں جو ہندو داروغہ ہے وہاں مسلمان بچوں کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا"۔

خیر بات تو جیل کی خوراک کی چل رہی تھی ایک دن میں چکی پیس رہا تھا اور بائی میں وہ ساگ پڑا ہوا تھا کہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ صاحب آ گئے۔ میں نے وہ ساگ دکھلا کر ان سے کہا" دیکھئے 'یہاں بلی آئی تھی میں نے اس کے آگے یہ ساگ رکھا تھا اور اس نے نہیں کھایا۔ یہ ساگ حیوان بھی نہیں کھاتے اسے آپ انسان کو دیتے ہیں"۔

یہ سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر بھی تھے انہوں نے مجھے کہا" یہ ساگ تو بہت اچھا ہے"۔

اب میں اس بارے میں ان سے کیا کہتا میں نے اسی طرح کی دوسری بات چھیڑ دی۔ میں نے کہا" اچھا وہ سامنے کی چکی والا جو آدمی ہے ذرا اس کی بیڑیوں کو دیکھئے اور میری بیڑیاں بھی دیکھئے وہ بھی بیس سیر گیہوں پیستا ہے اور میں بھی بیس سیر پیستا ہوں۔ وہ بھی چکی میں بند ہے اور میں بھی چکی میں بند ہوں اس کا کیا جرم ہے اور میرا کیا جرم ہے؟ اور آپ کے دیس میں جو میری طرح کا قیدی ہوتا ہے اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہے؟"

سپرنٹنڈنٹ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن میری مشقت بدل دی مجھے کارخانے بھیج دیا تاکہ لفافے بناؤں ایک دن وہ سپرنٹنڈنٹ پھر ادھر آئے مجھ سے بولے' وہ کچھ دن کے بعد مجھے اس چکی (کوٹھری) سے نکال دیں گے اس کارخانے میں صوبہ سرحد کے تمام ضلعوں کے قیدی تھے اکثر وہ آپس میں دست گریباں ہوتے اور ان کے تمام جھگڑے لڑکوں کے سلسلے میں ہوتے وہ سب میرے پاس آیا کرتے اور میں انہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے اور برے کاموں سے منع کیا کرتا تھا ان کے درمیان مفاہمت اور صلح صفائی کرا دیتا تھا

Marfat.com

بعض ایسے قیدی بھی تھے کہ وہ مشقت سے ڈرتے تھے اور مشقت انہیں ایک بہت بڑی مصیبت نظر آتی تھی-اسی وجہ سے وہ گنگارام کو رشوت دیتے تھے میں نے انہیں اس کام سے منع کر دیا اس سے گنگارام کی دکان جب ٹھنڈی پر گئی تو وہ اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے کسی طرح اس جیل خانے سے منتقل کر دے -میرے خلاف اس نے سپرنٹنڈنٹ سے رپورٹ کر دی کہ میں جیل خانے میں اپنا پروپیگنڈا کرتا ہوں اور ان کے لئے مشکلات پیدا کرتا ہوں اور اگر مجھے یہاں رکھا جائے گا تو وہ جیل خانے کا ڈسپلن قائم رکھنے سے معذور ہو جائے گا اس طرح اس نے میرے خلاف ایک مقدمہ سا بنا لیا-

گنگارام کی رپورٹ کے سلسلے میں سپرنٹنڈنٹ صاحب ادھر آئے انہوں نے مجھ سے چند استفسار کئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ گنگارام جھوٹ بولتا ہے' لیکن بیچ میں ڈسپلن کا سوال پیدا ہو گیا تھا-انگریز کے آگے ڈسپلن کا نام لے لو تو پھر اس سے جو بھی کرانا چاہو' کر سکتے ہو لہٰذا اسی ڈسپلن کی آڑ لے کر مجھے ڈیرہ غازی خان کے جیل خانے میں منتقل کر دینے کے احکام جاری ہو گئے میں نے دو مہینے پشاور کے جیل خانے میں گزارے تھے اور تقریباً دو ماہ ہی مجھے یہاں آئے ہوئے گزرے تھے اس عرصے میں میرا وزن بہتالیس پونڈ کم ہو گیا تھا اور خراب خوراک کی وجہ سے میرے دانتوں کے مسوڑھے خراب ہو گئے تھے اور ان میں پائیوریا کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا-

ایک دن جیل خانے میں پولیس کی موٹر آئی جس کے اردگرد چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے میرے پاؤں میں بیڑیاں' ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں طوق پڑا تھا جیل کے تنگ اور چھوٹے لباس میں مجھے خود اپنی شکل عجیب نظر آتی تھی خدا جانے لوگوں کو میں کیسا نظر آتا ہوں گا خیر ایک پردہ نشین خاتون کی مانند مجھے پردے کے اندر موٹر میں بٹھا دیا گیا اور دریا خان پہنچا دیا گیا- ریل گاڑی ہمارے پہنچنے سے پہلے نکل گئی تھی ہمیں رات اسٹیشن پر ہو گئی - وہاں مجھے کسی کے نزدیک تک نہیں جانے دیا جاتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو میرے پاس پھٹکنے دیا جاتا تھا اور تو اور کیا میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں تک نہ کھولی گئیں میرے ساتھ پولیس والے سب پختون تھے اس پر طرفہ یہ کہ تھانیدار انچارج تو ہمارے علاقے کا آدمی تھا جس کا نام نادر خان تھا اور وہ ڈیکائٹ کے نام سے مشہور تھا-

دوسرے دن جب گاڑی آئی تو مجھے نوکروں کے ڈبے میں بٹھا دیا گیا راستے میں گاڑی

Marfat.com

جس اسٹیشن پر بھی پہنچتی مجھ پر اس قدر سخت پہرہ ہوتا کہ مجھے دیکھنے کے لئے کسی کو میرے قریب نہیں آنے دیا جاتا- ہم غازی گھاٹ پہنچ گئے وہاں مجھے لینے جو پولیس آئی ہوئی تھی اس کا افسر ہندو تھا وہ میرے پاس آیا اور پٹھان گارڈ سے میرا چارج لے لیا- اس نے میری ہتھکڑیاں کھول دیں اور مجھے کہا کہ آیئے' تھوڑا اسٹیشن پر گھوم پھر لیجئے میں جب اس کے ساتھ ٹہل رہا تھا تو اس اثناء میں ہمارا وہ انچارج پختون پولیس افسر آیا اور اس نے ہندو پولیس افسر سے کہا "ہائے ہائے' یہ تم نے کیا کر دیا ہے مجھے تو تم نے غرق کر کے رکھ دیا ہے"-

ہندو پولیس افسر نے جواب دیا "اب یہ میرے چارج میں ہیں اور ان کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے جاؤ تم فکر کس لئے کرتے ہو"-

تھوڑی دیر کے بعد پولیس مجھے لے کر ڈیرہ غازی خان کے لئے روانہ ہو پڑی- دریا کے کنارے پہنچے کشتی کے ذریعے جب ہم نے دریائے سندھ کو پار کر لیا تو یہاں تانگہ موجود تھا اس میں ہم بیٹھ گئے اور ڈیرہ غازی خاں کے جیل خانے پہنچ گئے- میں جس وقت جیل خانے کے دروازے پر پہنچا اس وقت وہاں عبدالرشید خان' جو کرنل عبدالمجید خان کا لڑکا تھا' لالہ دنی چند انبالوی سے ملاقات کر رہا تھا اور ان کے ساتھ ان کے عزیز و اقارب آئے ہوئے تھے پھر جیل خانے کے اندر چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا "ہم نے جب تمہیں پہلے پہل دیکھا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا راہزن' ڈاکو اور قاتل ہو گا جسے یہاں لے آئے ہیں"- خیر جیل خانے کے اندر پہنچتے ہی میری بیڑیاں کاٹ دی گئیں یہ ایک چھوٹا سا جیل خانہ تھا اس میں پنجاب کے سیاسی قیدی تھے ایک بارک میں سی کلاس کے قیدی تھے اور دوسری میں اسپیشل کلاس کے - ہمارے صوبہ میں کوئی کلاس نہیں تھی اس لئے مجھے سی کلاس کے قیدیوں میں رکھا گیا تھا-

لیکن اس سی کلاس کی روٹی بہت اچھی تھی جیل خانے کا سپرنٹنڈنٹ بہت اچھا آدمی تھا وہ سیاسی قیدیوں کو گیہوں دیا کرتا تھا وہ اسے خود صاف کیا کرتے تھے اور خود ہی اس کا آٹا پیستے تھے پھر اپنے ہی ہاتھوں سے روٹی پکایا کرتے تھے اور ہانڈی سالن بھی خود اپنے ہی ہاتھوں پکایا کرتے تھے-

میرے لئے سب سے بڑی مصیبت وہ بیڑیاں تھیں جن سے مجھے نجات مل گئی تھی- پھر سی کلاس کے سب قیدی سکھ اور ہندو تھے یہ بہت پیارے اور خوش خلق لوگ تھے میری تو

Marfat.com

بڑی آؤ بھگت کرتے تھے ان کی مشقت بان سازی تھی- اور میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا میں نے سپرنٹنڈنٹ سے کہہ دیا کہ مجھے اس کی بجائے کوئی اور کام دے دیا جائے- اسپیشل کلاس کے قیدیوں کو میرے بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے بھی سپرنٹنڈنٹ کو میرے لئے زور دیا کہ مجھے ان کی بارک میں منتقل کر دیا جائے- سپرنٹنڈنٹ ایک بہت اچھا مسلمان تھا اس نے انہی کی بارک میں بدل دیا اور مجھے چرخے کی مشقت لکھ دی یہ مجھ پر خدا کا بے حد فضل و کرم تھا کہ مجھے ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان کے جیل خانے میں منتقل کر دیا گیا اگر مجھے وہیں رکھا جاتا تو مجھے یقین نہیں ہے کہ میں صحیح سلامت رہ جاتا وہاں مجھے ایسے شستہ و شائستہ عالموں کی سوسائٹی کہاں ملنی تھی' جس سے میں نے بڑا بھاری فائدہ اٹھایا اور سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پنجاب کے لوگوں سے میری جان پہچان ہو گئی اور اچھے تعلقات پیدا ہو گئے اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے خیالات اور عقائد سے بھی واقف ہو گئے- اور جب یہ لوگ حالات سمجھ گئے تو انہوں نے اخبارات کے ذریعے میرے حق میں سرکار کے خلاف اس قدر زوردار احتجاج کیا کہ حکومت کچھ عرصے ہی کے بعد مجھے بھی اسپیشل کلاس میں رکھنے پر مجبور ہو گئی-

ڈیرہ اسماعیل خان میں خراب خوراک کی وجہ سے میرے دانت خراب ہو گئے تھے جب میں یہاں آگیا تو سپرنٹنڈنٹ نے مجھے علاج کے واسطے لاہور سنٹرل جیل میں بھیج دیا- اس جیل کا داروغہ خیر الدین خان تھا' جس کی قوم پرستوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہ انگریزوں کو خوش کرنے کی خاطر بڑی سختی سے کام لیتا تھا اس کے بدلے میں انگریز نے اسے چھٹی دے رکھی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ جس طرح اس کا دل چاہے ویسا سلوک کرے اور اس کا سلوک سیاسی قیدیوں سے بہت خراب تھا- جیل خانے میں خلافت اور کانگریس دونوں کے قیدی تھے میں بھی تو خلافت والوں میں سے ایک تھا اس لئے مجھے ان کے پاس نہ پہنچایا گیا اور مجھے اکیلے ہی ایک چکی یعنی قید تنہائی کی کوٹھری میں بند کر دیا گیا ان چکیوں میں بہت سے سکھ قیدی بند تھے اور وہ اس وجہ سے بند کئے گئے تھے کہ وہ "ست سری اکال" کے نعرے لگاتے تھے- سکھوں میں ایک بہت زبردست جذبہ پیدا ہو گیا تھا ان پر جتنی زیادہ سختی جیل والوں کی طرف سے کی جاتی تھی' ان کا جذبہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا تھا- جب خلافت والوں کو میرے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے شور مچا دیا اور دوسرے دن ہی مجھے چکی سے نکال لیا گیا اور انہیں سیاسی قیدیوں کے ساتھ یک جا کر دیا- اس جگہ آغا صفدر' ملک لال خاں'

Marfat.com

لالہ لاجپت رائے اور اسی طرح بہت سے کانگریسی رہنما موجود تھے مجھے ان سب کے ساتھ تبادلہ خیالات کا موقع ملا- آغا صفدر' ملک لال خاں اور میں نے قرآن کا درس شروع کر دیا لیکن ملک لال خاں نے بہت جلد ہمارے ساتھ اس درس میں شرکت ترک کر دی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ لوگ قرآن کے مختلف معنی نکالتے ہیں وہ بے چارے لکیر کے فقیر تھے ان میں اتنی سوجھ بوجھ اور علم نہ تھا کہ ہمارے سمجھانے کا ان پر کچھ گہرا اثر ہو پاتا-

کچھ دنوں کے بعد ڈینٹل سرجن آیا مجھے اس کے پاس دفتر میں لے جایا گیا اس کا نام پریم ناتھ تھا- واللہ واقعی وہ پریم کا مجسمہ تھا اس نے میرے دانت دیکھے اور ان میں سے ایک دو دانت نکال دیئے باقی دانتوں کو صاف کر دیا اس نے مجھے بتایا کہ یہ پائیوریا ہے اور خراب خوراک کی وجہ سے تمہارے دانتوں کو لگا ہے- دوائی اور خوراک بھی اس نے مجھے لکھ دی میں نے اسے کہا کہ میں امیر آدمی ہوں اور میرے روپے جمع ہیں مہربانی کر تم اپنی فیس لے لو - لیکن وہ فیس لینے سے برابر انکار ہی کرتا رہا جب میں نے اس سے بہت اصرار کیا تو اس نے مجھے کہا کہ " آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آپ تو ملک و ملت سے محبت اور خدمت کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں' اس لئے اگر میں آپ سے فیس لوں گا تو مجھے شرم نہیں آئے گی کیا؟" اگر میں آپ کی طرح اس قدر قربانی نہیں دے سکتا تو یہ تھوڑی سی خدمت تو کر ہی سکتا ہوں' قصہ کوتاہ اس نے مجھ سے فیس وغیرہ کچھ نہ لیا اور اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا-

میں کچھ دن کے بعد پھر ڈیرہ غازی خاں کے جیل خانے میں بھیج دیا گیا- ریل گاڑی میں پولیس کی حفاظت میں سفر شروع ہوا گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت گرمی کے مارے برا حال ہو رہا تھا گاڑی شیر شاہ اسٹیشن پر رکی تو مجھے وہاں اتار لیا گیا- یہاں ہمیں گاڑی بدلنا تھی پولیس کا وہ افسر جو میری گارڈ کا انچارج تھا بہت اچھا آدمی تھا وہ مجھے ویٹنگ روم کی طرف لے گیا روم کے دروازے بند تھے پولیس افسر نے ایک کرسی اٹھائی اور میرے آگے رکھ دی میں اس پر بیٹھ گیا پولیس افسر نے مجھے سلام کیا اور باہر چلا گیا-

پیر صاحب کا ایک مرید ان کے لئے ہاتھ سے پنکھا جھل رہا تھا اور ہمارے آجانے سے پیر صاحب کی نیند بھی کھل گئی- پیر صاحب نے یہ سارا تماشہ دیکھ لیا تھا پیر صاحب کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ میں شاید پولیس کا کوئی بہت بڑا افسر ہوں پیر صاحب کے ساتھ ان کا ایک معصوم بچہ بھی تھا- یہ پیر صاحب ہندوستان میں خیرات و صدقے جمع کرنے کے لئے گئے تھے

Marfat.com

اور بہت سے صندوق مال و اسباب کے بھر کر لائے تھے وہ تونسہ شریف کے بڑے پیر تھے۔ مجھے ننھے بچوں سے بے حد پیار و محبت ہے اور اس معصوم بچے کا بھی مجھ سے پیار ہو گیا وہ میرے پاس بیٹھ گیا تو ہلنے کا نام ہی نہ لیا پیر صاحب پہلے تو بڑے خوش تھے کہ میں شاید پولیس کا ایک بہت بڑا افسر ہوں لیکن بعد میں جب میں باہر نکلا اور وہ بچہ بھی میرے ساتھ آ گیا تو لوگوں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا۔ پھر کیا تھا بھاری تعداد میں لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، تب پیر صاحب کو معلوم ہوا کہ میں تو خلافت کا آدمی ہوں پھر کیا تھا پیر صاحب نے فوراً اپنا ایک مرید اپنے ننھے بچے کو لے جانے کے لئے ہمارے پیچھے بھیج دیا لیکن وہ بچہ کہاں مجھ سے جدا ہونے لگا تھا آخر اسے رلا کر ہی مجھ سے جدا کیا گیا بچے کو لے کر پیر صاحب ویٹنگ روم چھوڑ کر چل دیئے

ڈیرہ غازی خان لا کر مجھے جیل کی ایک بارک میں بند کر دیا گیا اس بارک میں مسلمان بہت تھوڑے تھے ہندو اور سکھ بہت زیادہ تھے ہمارا ایک ماسٹر تھا اس کا نام گوردتہ مل تھا بہت اچھا آدمی تھا اور میرے ساتھ تو اس کی گہری محبت تھی جب وہ پرارتھنا کیا کرتا تھا تو شانتی شانتی کا پاٹھ خوب کرتا تھا لیکن وہ خود شانت نہیں تھا۔ معمولی سی بات پر بہت بگڑ جاتا تھا سکھ جب سب اکٹھے ہو جاتے تو یہ شبد بڑے شوق سے گاتے کہ "سر جاوے تاں جاوے میرا سکھی دھرم نہ جاوے"۔ یہ سن کر مجھے بہت لطف آتا تھا میں کہتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی نسبت سکھوں میں یہ جذبہ اس وجہ سے فراواں ہے کہ ان کی مذہبی کتاب اپنی مادری زبان میں ہے اور وہ الفاظ و معانی کا کماحقہ اثر حاصل کر سکتے ہیں نیز اسی وجہ سے وہ اپنے مذہب کی فضیلت اور عبارت سے بھی خوب واقف ہیں اور ہم ہندو اور مسلمان جس زبان میں عبادت کرتے ہیں اسے ہم نہیں سمجھتے۔ ہندوؤں کی عبادتی زبان سنسکرت اور ہماری عربی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے عبادتی کلام کے معنی و مفہوم کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہندو لوگ۔ اب غور کیجئے کہ ایک آدمی جو اپنے مذہب سے واقف نہیں اور نہ ہی مذہبی کلام کو سمجھتا ہے، وہ کیا ترقی کرے گا؟۔

اس جیل خانے میں ہمارے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے اور پختونوں کے بارے میں انگریزوں نے جو بہت سی غلط فہمیاں ہندوؤں کے دلوں میں پیدا کر رکھی تھیں ان کی کسی قدر اصلاح ہو گئی ایک دن میرا ایک ہندو دوست مجھے کہنے لگا "میں ایک بات آپ سے

Marfat.com

پوچھتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خفا نہیں ہوں گے"۔
میں نے جواب دیا "ہرگز نہیں"۔
ہندو دوست نے کہا "میں نے سنا ہے کہ پٹھان انسان کا خون پیتے ہیں؟"
میں نے جواب دیا "ہاں 'ہاں خوب پیتے ہیں"۔
وہ چلا سا اٹھا "باپ رے باپ" اس نے پھر پوچھا "یہ کیوں پیتے ہیں؟"۔
میں نے جواب دیا "اس لئے کہ یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے"۔
وہ پھر چلا اٹھا "باپ رے باپ"۔
میں نے اب ذرا سنجیدہ لہجے میں ہندو دوست سے پوچھا "دوست! یہ بات تمہارے دماغ میں پیدا کیسے ہوئی ہے؟ کیا تم کبھی پٹھانوں کے دیش میں گئے ہو 'تم نے پٹھان دیکھے بھی ہیں' تمہارا ان سے کبھی واسطہ بھی پڑا ہے"؟
اس نے جواب دیا "نہیں"۔
میں نے اس سے پھر پوچھا "تم پھر کیسے اس نتیجے پر پہنچ گئے"؟
اس کا جواب تھا کہ "اس نے کسی کتاب میں پڑھا ہے"۔

کچھ دنوں کے بعد ہمیں خبر ملی کہ محکمہ جیل کا جرنیل دورے پر آ رہا ہے اس کا نام کرنل واڈ تھا۔ یہ بڑا سخت طبیعت آدمی تھا اور اس کا قوم پرستوں سے تو خدا واسطے کا بیر تھا غرضیکہ ہر لحاظ سے بڑا خراب آدمی تھا جس وقت وہ اس جیل کا معائنہ کرتا ہوا ہماری بارک میں داخل ہوا اور اس نے ہندوؤں کے سروں پر ٹوپیاں اور سکھوں کے سروں پر کالی پگڑیاں دیکھیں تو آگ بگولہ ہو گیا۔ وہ داروغہ پر برس پڑا کہ "اس چیز کی اجازت تم نے انہیں کیوں دی ہے؟"

ہمارا سپرنٹنڈنٹ بڑا اچھا آدمی تھا وہ بھی انگریز ہی تھا اس نے جرنیل سے کہا کہ "یہ ان کا نہیں میرا قصور ہے"۔

جرنیل چلا گیا اور جیل کے افسروں کو حکم دے گیا کہ وہ ان قیدیوں سے گاندھی ٹوپی اور "کالی دستاریں" لے لیں۔

دوسرے دن جب سپرنٹنڈنٹ اور داروغہ آئے تو ہمیں جرنیل کا یہ حکم سنایا گیا سردار کھڑک سنگھ نے ان سے کہا "ہم اسپیشل کلاس کے قیدی ہیں اور حکومت نے ہمیں اپنے کپڑے پہننے کی اجازت دے رکھی ہے اس لئے یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ جس طرح کے

Marfat.com

کپڑے ہمیں پسند ہوں ویسے کپڑے ہم پہنیں لہٰذا جرنیل صاحب کا یہ حکم ناجائز ہے اور ہمارے ان حقوق میں جو حکومت نے ہمیں دے رکھے ہیں بے جا مداخلت ہے"۔

لیکن اس بات پر انہوں نے کان نہ دھرے انہوں نے کہا "ہم تو مجبور ہیں ہم لوگ جرنیل صاحب کے حکم کی تعمیل کریں گے لہٰذا ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ یہ ٹوپیاں اور پگڑی اتار لو"۔

ہم نے ان سے مزید دلیل بازی نہ کی کیونکہ دلیل کو وہ نہیں مانتے تھے جب یہ لوگ چلے گئے تو ہم سب ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ حکومت نے چونکہ ہمیں اپنے کپڑے پہننے کا حق دیا ہے تو یہ ہماری مرضی ہے کہ جس طرح کے کپڑے پہننے کو ہمارا دل چاہے اسی قسم کے کپڑے پہنیں اور یہ کہ جیل والوں کا یہ حکم جائز نہیں ہے اس لئے ہم اسے نہیں مانیں گے اور ٹوپیاں اور پگڑیاں نہیں اتاریں گے"۔

دوسرے دن جیل کے افسران آئے ایک ایک آدمی کو دفتر لے جانے لگے اور وہاں ان کی ٹوپیاں اور پگڑیاں سر سے ہٹانے لگے اس طرح ہم سب کی جب ٹوپیاں اور پگڑیاں سروں سے اتروالی گئیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ باقی کے کپڑے بھی ہم نہیں پہنتے ہم چاہے ہندو تھے یا مسلمان' یا کہ سکھ تھے سب نے اپنے اپنے کپڑے اتار لئے اور ننگے ہو گئے اور لنگوٹیاں کس لیں۔ اس موقع پر میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یہ ٹوپی اور پگڑی کا قضیہ ہمارے صوبے میں نہیں ہے اور اس کا کوئی خاص اثر ہمارے لوگوں پر نہیں پڑتا ہے۔ اس لئے آپ لوگ اگر کہیں تو آپ لوگوں کی خاطر میں بھی اس تحریک میں شامل ہوتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی اور کہہ دیا کہ "یہ ہمارا پنجاب کا معاملہ ہے اور یہ تحریک ہم پنجابی ہی چلائیں گے"۔

کچھ دنوں کے بعد ڈیرہ غازی خان کا ڈپٹی کمشنر جیل خانے میں آیا اس کا نام ولسن تھا ہم سب کی طرف سے اس کے ساتھ سردار کھڑک سنگھ نے گفت و شنید کی۔ سردار صاحب نے اسے کہا کہ "یہ ہمارا حق ہے جب ایک دفعہ حکومت نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہننے کا حق دیا ہے تو پھر یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ جس قسم کے کپڑے چاہیں پہن لیں"۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا "تمہیں پگڑی اور ٹوپی کا حق نہیں ہے"۔

Marfat.com

سردار صاحب نے پوچھا "کیوں؟ کیا یہ پگڑیاں کپڑوں کی تعریف میں نہیں آتیں"؟
ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا "نہیں"۔
اس گفت و شنید میں آہستہ آہستہ تلخی سی پیدا ہو گئی تو اچانک سکھوں نے نعرہ لگا دیا "جو بولے سو نہال، ست سری اکال"۔

اس نعرے سے فضا کانپ اٹھی، ڈپٹی کمشنر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر دفتر کی طرف بھاگا اور دفتر میں جا کر یہ حکم تحریر کر دیا کہ اس بات کے لئے انہیں سزا دینی چاہیے۔

دوسرے دن سپرنٹنڈنٹ آیا اور اس نے ہمیں یہ حکم سنایا "تم لوگ کپڑے پہن لو اگر کپڑے نہیں پہنو گے تو کل تمہیں جیل خانے کے آئین کے مطابق مقدمے میں ماخوذ کیا جائے گا"۔

Marfat.com

Marfat.com

ولی اور غنی کی میری رہائی کے لئے تحریک

میں سی کلاس میں تھا اور سی کلاس قیدیوں کو تین ماہ بعد ایک ہی خط لکھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی اسی طرح تین مہینے بعد اس کے نام جیل خانے میں جو خط آتا تھا وہ اسے دیا جاتا تھا ایسی حالت میں میں اپنے علاقے کے حالات سے بہت کم باخبر ہوتا تھا۔ اسی طرح تین ماہ کے بعد ایک قیدی کی اپنے لواحقین سے ملاقات ہوا کرتی تھی ان حالات میں جو بھی میری ملاقات کو آتا تو وہ مجھے اپنے صوبے کے حالات سناجاتا ہماری جماعت نے اپنے علاقے میں زور شور سے کام شروع کر رکھا تھا ان دنوں جلسوں کا زیادہ رواج نہیں تھا اور حکومت بھی کسی کو جلسوں میں نہیں جانے دیتی تھی لوگ بھی ڈرتے تھے۔ ان حالات میں ہمارے ساتھی مسجدوں میں مجالس ہائے مولود شریف منعقد کرتے تھے اور انہی مجالس میں ہمارے کارکن تقریریں کیا کرتے تھے اور اس میں زیادہ تر حصہ لینے والے ہمارے اسکول کے طلباء ہوا کرتے تھے اس وقت غنی کی عمر نو سال تھی ولی بہت اچھی قرات کرتا تھا اور وہ ایک بڑا اچھا قاری تھا۔ غنی ایک بہت اچھا مقرر تھا اور بڑی شاندار تقریر کیا کرتا تھا وہ اپنی تقریر کے آخر میں لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ "اے لوگو! آپ لوگ ذرا اس حکومت سے یہ تو پوچھیں کہ میرے باپ کو اس نے کس لئے قید کر رکھا ہے' آخر ان کا گناہ کیا ہے اور انہوں نے کیا جرم کیا ہے"؟ ہمارے لوگوں پر ان باتوں کا بڑا اثر پڑتا تھا' لہٰذا وہ بڑے متاثر ہوئے اور ملک میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی مختصر یہ کہ میری قید سے میری قوم کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ایک تو ان میں تعلیم کا شوق پیدا ہو گیا اور دوسرا ان کے اندر سیاسی شعور آگیا میری قید کی وجہ سے ہمارے اسکول سے لوگوں کی بڑی ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی اور وہ اسکول کے لئے امداد بھی مہیا کرتے۔

Marfat.com

Marfat.com

والدہ کا انتقال

میری والدہ صاحبہ میرے لئے بہت غمگین اور اداس رہتی تھیں اور جیل کے قواعد کے مطابق مجھے جب خط لکھنے کا موقع میسر آتا تو میں اپنی والدہ صاحبہ ہی کو خط لکھا کرتا تھا۔ میری والدہ صاحبہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ میری ملاقات کے لئے آئیں، لیکن وہ ضعیف العمر تھیں اور ڈیرہ غازی خان ایک بہت دور افتادہ جگہ تھی اس کے علاوہ بیچ میں دریائے سندھ پڑتا تھا وہ اس قدر تکلیف دہ سفر تھا جو ان کے لئے قابل برداشت نہیں تھا' اس لئے میں ہمیشہ اپنی ملاقات کے لئے آنے سے منع کر دیا کرتا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ انہیں خدا وند پاک مجھ سے ہمیشہ کے لئے جدا کر دے گا۔ ۱۹۴۳ء کے آخر میں وہ بیمار ہوئیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد رحلت فرما گئیں۔ مجھے کسی نے بھی ان کی بیماری کی یا وفات کی اطلاع تک نہ دی اور مجھ سے یہ خبر چھپائی گئی لیکن مجھے اخبارات کے ذریعے علم ہو گیا اور میں بہت دکھی ہوا جب میں رہا ہو کر اپنے گاؤں میں آیا تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ آخری سانس لیتے وقت ماں نے مجھے بہت یاد کیا۔ وہ حالت نزع میں کہہ رہی تھیں "غفار ادھر گیا ہے وہ آیا ہے یا نہیں"؟ بس میرا ہی نام ان کی زبان پر تھا کہ انہوں نے دم توڑ دیا۔

Marfat.com

Marfat.com

سردار کھڑک سنگھ ایک زبردست انسان

ڈیرہ غازی خان کے قیدیوں میں سب سے لمبی قید میری تھی میری قید تین سال کی تھی اور دوسرے قیدیوں میں کوئی چھ مہینے کوئی نو مہینے اور زیادہ سے زیادہ سال بھر کے لئے قید تھا چھ مہینے تک اکثر سزا یافتہ قیدی ہمارے دیکھتے دیکھتے رہا ہو چکے تھے اور یہ لوگ اس سے بھی پہلے رہا ہو جاتے اگر جیل خانے میں کپڑوں کا بجی ٹیشن نہ کیا ہوتا اور ان کی قید کا عرصہ بڑھایا نہ ہوتا جب ان کی نو مہینے کی قید پوری ہو گئی تو سپرنٹنڈنٹ پھر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اب بھی کپڑے پہن لو ورنہ پھر ایک اور مقدمہ تمہارے خلاف چلایا جائے گا۔ اس پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے تو کپڑے پہن لئے لیکن سکھوں نے پھر بھی نہیں پہنے۔ لہٰذا انہیں نو نو مہینے کی مزید قید کی سزائیں دی گئیں جن اصحاب نے کپڑے پہن لئے تھے انہوں نے سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ انہیں اس جیل خانے سے منتقل کر دیا جائے۔ انہیں اس جیل خانے سے کہیں اور بھیج دیا گیا۔ جب نو مہینے پورے ہو گئے اور سکھ سمجھ گئے کہ جیل خانے والے پھر ہمارے خلاف مقدمہ چلانا چاہتے ہیں تو ان میں بھی کمزوری پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ اس جیل خانے سے اپنے آپ کو منتقل کروالیں انہیں بھی دوسرے جیل میں منتقل کر دیا گیا۔

اب اس جیل خانے میں بس صرف میں اور سردار کھڑک سنگھ دو ہی قیدی رہ گئے۔ کھڑک سنگھ بڑا زبردست انسان تھا اور پہاڑ کی طرح اپنے عزم پر ڈٹا ہوا تھا کوئی اسے ہلا نہیں سکتا تھا اس دوران میں جرنیل پھر دورے پر آیا اور جونہی وہ ہماری بارک میں پہنچا تو وہ بڑے تکبر سے بھرپور تھا اس نے سردار صاحب سے کہا "ویل کھڑک سنگھ"۔

سردار کھڑک سنگھ نے جواب دیا "یس واؤ"

یہ سن کر انگریز جل بھن گیا جب وہ چلا گیا تو حکم دے گیا "کھڑک سنگھ کو چکی میں بند کر دو اور کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے جو دودھ اس کے لئے مقرر کر رکھا ہے اسے بھی دینا بند کر دیا جائے"۔

جیل کے حکام سردار صاحب کو وہاں سے لے گئے ہسپتال میں ایک چکی تھی، اس میں

Marfat.com

انہیں بند کر دیا گیا میں اکیلا ہی رہ گیا- ہسپتال میری بارک سے ملحق تھا اور وہاں دروازے میں ایک سوراخ تھا میری اور سردار صاحب کی ملاقات کبھی نہ کبھی اسی سوراخ میں سے ہو جایا کرتی تھا سردار صاحب بہت کمزور ہو گئے تھے میں انہیں اسی سوراخ میں سے کبھی کبھی کھانے کی چیزیں دے دیتا لیکن وہ ایک عظیم انسان تھا باوجود اس قدر مصائب اور تکالیف کے اس عزم اور غیرت میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی تھی-

جیل کے افسران نے حکام بالا کو رپورٹ کر دی کہ میں نے جیل کی ایک بڑی بارک گھیر رکھی ہے اور چونکہ اس جیل خانے میں قیدیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس لئے انہیں بارک کی ضرورت ہے لہٰذا مجھے اس جگہ سے کسی دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے-

اس جیل خانے میں صرف دو بارکیں تھیں ایک میں میں قید تھا اور چھوٹی بارک ان کے پاس تھی' مطلب یہ کہ قیدیوں کی تعداد کے مقابلے میں جگہ کم تھی' اس لئے مجھے میانوالی کے جیل خانے میں منتقل کر دیا گیا- میانوالی کا جیل بھی چھوٹا سا ہے اس میں بارکیں نہیں ہیں سب چکماں قید تنہائی کی کوٹھریاں ہیں- یہاں بھی کافی سیاسی قیدی تھے کانگریس والے بھی تھے اور خلافت والے بھی اور گورو کے باغ کے قیدی بھی تھے لیکن یہ قیدی ڈیرہ غازی خان کے قیدیوں میں سے یہاں منتقل کئے گئے تھے اور ان کے جیل والوں سے اچھے تعلقات تھے- اس جگہ ہندوؤں' مسلمانوں اور سکھوں کے علیحدہ علیحدہ لنگر تھے- ہمارے لنگر کے انچارج مولانا اقبال تھے یہ حضرت پانی پت کے رہنے والے تھے اور خلافت تحریک میں پانچ سال سے قید تھے کھانا پکانے میں بڑے ماہر تھے لیکن ہانڈی میں مرچ بہت زیادہ ڈالتے تھے اور میرے لئے ایک بہت بڑی مصیبت پیدا کر دیتے تھے- مولانا ظفر علی خان کا لڑکا اختر علی خاں بھی ہمارے ساتھ تھا اس جگہ کا داروغہ بھی ایک عجیب انسان تھا- میانوالی میں سخت گرمی پڑتی ہے اور ریت بھی اڑتی ہے جیل خانے میں ایک کنواں تھا اس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا داروغہ صاحب سیاسی قیدیوں کو نہلانے کے لئے وہاں لے جایا کرتا تھا- مجھے بھی وہ بہت کہا کرتا تھا لیکن میں نہیں جاتا تھا اور شام کو جب گنتی بند کی جاتی تھی تو جیل خانے کے درمیان ایک برج تھا' جس کے چاروں طرف بیٹھنے کی اچھی جگہ تھی داروغہ صاحب وہاں بیٹھا کرتا تھا اور ہمارے سیاسی قیدی بھی وہاں جا کر بیٹھتے تھے اس جگہ کے لئے مجھے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان جیل کے افسروں کی ساری زندگی اگرچہ قیدیوں کے ساتھ گزری ہوتی ہے لیکن افسر آخر افسر ہی ہوتا ہے علاوہ ازیں ان افسروں کے مزاج بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں-

Marfat.com

ایک دن اختر علی خان اور کچھ دیگر سیاسی قیدی داروغہ صاحب کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اس اثناء میں جیل خانے کا ڈاکٹر آپہنچا۔ وہاں جتنی کرسیاں تھیں وہ سب سیاسی قیدیوں نے گھیری ہوئی تھیں ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ سیاسی قیدی نہ تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی کرسی خالی کی۔ اس پر داروغہ نے ان کی بہت بے عزتی کی اور ان سے کرسیاں خالی کرائیں اور انہیں وہاں سے چلتا کیا سیاسی قیدیوں کی اس بے عزتی سے میرے دل کو بہت رنج پہنچا لیکن مجھے ایسا لگا کہ ان سیاسی قیدیوں نے خود کوئی پرواہ نہیں کی تھی کیونکہ دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ وہ پھر دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپاہی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ داروغہ صاحب سے ان کے لئے وہاں جانے کی اجازت مانگے

۱۹۲۴ء میں میری قید کی میعاد ختم ہونے میں چند ایک دن رہ گئے تھے کہ داروغہ صاحب نے آکر اطلاع دی کہ مجھے پشاور منتقل کر دینے کے احکام جاری ہو گئے اور مجھے لینے کے لئے پولیس آگئی ہے اور دروازے پر بیٹھی ہے۔ داروغہ کے کہنے پر میں نے اپنا سامان اٹھالیا اور دروازے کی طرف چلا گیا وہاں سے جیل کے ملازمین مجھے اسٹیشن پر لے گئے اور سفر شروع ہوا۔ جب گاڑی خیر آباد پہنچی تو مجھے گاڑی سے اتار لیا گیا اور پشاور کی پولیس نے مجھے موٹر میں بٹھایا موٹر جو روانہ ہوئی تو مردان کے اس طرف پنکچر ہو گئی پولیس پر بڑی ہیبت چھا گئی اس نے موٹر چھوڑ دی ایک تانگہ پکڑ لیا اور مجھے چارسدہ لے آئے اور وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے مجھے پیش کر دیا اس وقت چارسدہ کا اسسٹنٹ کمشنر دلاور خان تھا اس نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ مجھے لے جائے اور میرے گاؤں میں پہنچا کر رہا کر دے۔

اس حکم کے مطابق پولیس مجھے میرے گاؤں میں لے آئی اور ہمارے مدرسے کے قریب چھوڑ کر چلی گئی۔ لڑکوں کی چھٹی کا وقت تھا انہوں نے جونہی مجھے دیکھا تو دوڑ کر سب میرے پاس آگئے اور میرے اردگرد جمع ہو گئے لیکن میرے گاؤں میں آج کے دن میری رہائی متوقع نہیں تھی کیونکہ اصل میں سرکار نے چند دن پہلے ہی ڈرامائی انداز میں مجھے رہا کر دیا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں جب مقررہ دن پر رہا کیا جاؤں گا تو وہ میرے استقبال کے لئے اٹک جائیں گے اور اس جگہ سے مجھے جلوس کی شکل میں اپنے گاؤں میں لے آئیں گے اس کے لئے انہوں نے گھوڑوں کا بڑا انتظام کیا تھا، لیکن حکومت اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس سے ہمارا بہت بڑا

Marfat.com

پروپیگنڈا ہو جاتا لہٰذا حکومت نے مجھے چند روز قبل ہی رہا کر دیا اور چپکے سے میرے گاؤں میں لاکر مجھے چھوڑ دیا گیا۔

تین سال کے بعد میں جیل خانے سے رہا ہوا تھا۔ان تین سالوں میں ہماری قوم بہت آگے بڑھ چکی تھی ہمارے مدرسے نے اچھی ترقی کر لی تھی اس کامیابی کا تمام سہرا ہمارے اسکول کے لڑکوں اور استادوں کے سر پر تھا انہوں نے میرے قید ہو جانے کے بعد ملک میں بڑا کام کیا تھا گویا میری قید کا صحیح فائدہ اٹھایا تھا۔یہ سب ان لوگوں کی محنت کی برکت تھی۔

ہمارے اسکول کا سالانہ جلسہ قریب تھا اور میرے آجانے کے باعث انہوں نے تاریخیں قدرے آگے ڈال دیں۔خیر جلسہ بڑے اہتمام سے ہوا اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اور لوگوں میں بہت پریم پیار اور جوش و خروش تھا جلسے میں کافی تقریریں ہوئیں اور نظمیں بھی پڑھی گئیں اس موقع پر قوم کی طرف سے مجھے ایک نغمہ عطا کیا گیا اور "فخر افغان" کے لقب سے میرے عزت افزائی کی گئی میں نے اس جلسے میں ایک مختصر سی تقریر کی اور اپنی قوم کو میں نے شیر کے ایک بچے کا یہ قصہ سنایا۔

"ایک شیرنی تھی اس نے بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیا وہ حاملہ تھی' حملہ کے دوران اس کے بچہ پیدا ہوا وہ خود مر گئی اور اس کا یہ بچہ ایک بھیڑ نے اپنے پیچھے لگا لیا شیر کا یہ بچہ انہی بھیڑوں کے ریوڑ میں پلا اور بڑا ہوا اس نے بھیڑوں کی عادتیں اور خصلتیں سیکھ لیں۔وہ بھیڑوں کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا اور چرتا رہتا' ایک دن ایک شیر ادھر آنکلا اور اس نے ان بھیڑوں پر حملہ کر دیا حملے کے وقت شیر نے دیکھا کہ ان بھیڑوں میں شیر کا ایک بچہ بھی ہے اور وہ بھی اس سے ڈر کر بھیڑوں کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے اور بھیڑوں کی مانند بائیں بائیں کر رہا ہے حملہ آور شیر کو یہ بات بہت عجیب نظر آئی کہ کہاں شیر کا بچہ اور کہاں یہ بائیں بائیں اور بھیڑ کا سا ڈرپوک پن۔وہ شیر کے بچے کے قریب آیا اور اس نے شیر کے بچے کو بھیڑوں سے علیحدہ کر لیا پھر اسے ایک تالاب پر لے گیا تاکہ وہ پانی کے اندر اپنا منہ دیکھ لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ وہ بھیڑ نہیں بلکہ شیر ہے۔شیر کے بچے نے جب پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اس سے حملہ آور شیر نے کہا "ارے کیا دیکھتا ہے' تو بھیڑ نہیں شیر ہے شیر' بیں بیں مت کر شیر کی طرح دھاڑ" پھر کیا تھا اس شیر کے بچے کی غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ زور زور سے دہاڑنے لگا جنگل کانپ اٹھا۔اور بھیڑوں کے ریوڑ تو کیا دیگر بڑے بڑے جانوروں میں بھی

Marfat.com

بھگدڑ مچ گئی۔

یہ قصہ سنا کر میں نے گرج کر کہا "اے پختونو میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ تم بھیڑیں نہیں ہو، تم شیر ہو شیر۔ غلامی میں پلنے کی وجہ سے تم اپنی حقیقی طاقت کو بھول گئے ہو۔ اپنے آپ کو پہچانو، بیں بیں مت کرو اور شیروں کی طرح گرجو" میری اس تقریر سے حکومت بہت سٹپٹائی، مگر میری قوم بہت مسرور ہوئی اور اس پر اس کا جادو کی طرح اثر ہوا۔ جلسہ برخاست ہو گیا لیکن میری تقریر ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں گونجتی رہی۔



Marfat.com

Marfat.com

دوسری بیوی کا انتقال

مئی ۱۹۲۶ء میں میری بڑی بہن حج کو جا رہی تھی- اس نے مجھے بھی مجبور کیا کہ میں بھی اس کے ہمراہ حج کو جاؤں- چنانچہ میں اور میری بیوی دونوں اس کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے- کراچی سے آگے ہم نے سمندری جہاز سے سفر شروع کیا- ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں فرسٹ یا سیکنڈ کلاس کے ٹکٹ نہ مل سکے کیوں کہ وہ سب لوگوں نے پہلے سے ہی لے لئے تھے- گرمی کا موسم تھا- اور تھرڈ کلاس میں بھی بے شمار حاجی سوار تھے- جب جہاز کراچی سے دور نکل گیا تو ہمیں قے آنی شروع ہو گئی اور کامران تک ہم لوگ کوئی چیز بھی زبان پر نہ رکھ سکے- کامران میں جب جہاز ٹھہرا اور ہم جہاز سے نیچے اترے تو قدرے کھانے پینے کو جی چاہا اور ہم نے کھایا پیا- رات ہم نے وہاں گزاری اور دوسرے دن جہاز آگے روانہ ہوا اب مجھے انفلوئنزا ہو گیا- خدا ایک عرب باشندے کا بھلا کرے کہ وہ مجھے اپنی سیکنڈ کلاس میں لے گیا اور مجھے اپنی ہی جگہ پر سلا دیا- اس نے میری بڑی حفاظت کی- جب ہم جدہ پہنچ کر جہاز سے نیچے اترے تو اس وقت تک میں ویسا ہی بیمار تھا- معلّم ہمیں اپنی جگہ پر لے آیا- ہمارے ساتھ سامان بہت زیادہ تھا- معلّم کی بے پروائی سے جہاز میں رہ گیا اور گم ہو گیا- یا اسی نے ہی چرا لیا-

جدے سے دوسرے دن ہم مکے چلے گئے- گرمی کا موسم تھا- اور مکہ میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی اور ہمارے لئے یہ بات سخت مصیبت کا باعث تھی کہ دن بڑا سخت گرم ہوتا اور رات کے وقت کافی ٹھنڈک ہو جاتی تھی- اس سے بے چارے حاجی بہت بری طرح بیمار پڑ جاتے تھے اور اکثر مرتے رہتے تھے- اس سال سعودیوں

Marfat.com

نے مکّہ پر قبضہ کر لیا تھا اور شریف مکّہ کو بھگا دیا تھا- سعودیوں نے عنان حکومت کو خوب اچھی طرح سنبھالا اور ہر طرح امن و امان قائم کر دیا- حاجی بتاتے تھے کہ جس وقت شریف مکّہ کی حکومت تھی اس وقت ملک میں بڑی بد امنی تھی - حاجیوں کے قافلے لوٹ لئے جاتے تھے اور اس لوٹ میں شریف مکہ خود لٹیروں کے ساتھ حصہ دار ہوا کرتا تھا- اس سال سعودیوں نے محمد علی، شوکت علی اور ظفر علی خاں وغیرہ اور ہندوستان کے دوسرے بہت سے لیڈروں کو دعوت دی تھی اور ہندوستان سے بہت سے لیڈر وہاں پہنچے تھے- اس سال دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک موتمر بھی ہوا تھا اور میں اس میں بھی شامل ہوا تھا لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہوا تھا- تمام بحث و مباحثہ قبوں اور جبوں تک ہی محدود تھا- بلکہ اس موتمر نے لوگوں میں اور زیادہ اختلافات پیدا کر دئے تھے-

ہم حج سے فارغ ہو گئے - میری بہن مدینے چلی گئی اور وہاں سے اپنے وطن کو لوٹ گئی - لیکن میری طبیعت اسی طرح علیل تھی - چنانچہ میں اور میری بیوی طائف چلے گئے - طائف حجاز میں ایک خوش گوار اور سرد مقام ہے طائف کے تمام بنگلے جو ترکوں نے بنائے تھے وہ ویران پڑے تھے - ہمارا نصیب اچھا تھا- کیوں کہ جب ہم طائف جا رہے تھے تو راستے میں ایک پٹھان ہمارا ہم سفر ہو گیا- اس کا گھر طائف میں ہی تھا- ہم اس کے ساتھ چلے گئے- اسے اور اس کی اہلیہ کو تو پشتو آتی تھی- لیکن اس کے بچوں کو پشتو نہیں آتی تھی- اس کا گھر بہت خوب صورت تھا- ہم نے اس کے ساتھ کچھ دن بڑے آرام اور خوشی سے گزارے اور بعد میں واپس مکّہ آ گئے-

طائف میں ایک واقعہ جو مجھے در پیش آیا قابل ذکر ہے- ایک دن میں شہر سے باہر نکلا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو دراز ریش ہے اور ایک لمبا جبہ پہنے ہوئے ہے مجھے آوازیں دے رہا ہے- "اے شیخ تعال تعال، یعنی ادھر آؤ"

میں اس کے قریب چلا گیا تو اس نے مجھ سے کہا "یہاں رسول اللہ کی داڑھی کا ایک بال پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک پتھر بھی پڑا ہے جس پر کہ رسول اللہ کے پاؤں کا نشان ہے-"

میں نے اسے جواب دیا "میں یہاں اس کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ میں یہاں اس

Marfat.com

لئے آیا ہوں کہ میں اس رسول پاک کا وہ صبر اور ہمت دیکھوں کہ وہ مکّے سے ان دشت بیابانوں میں لوگوں کے بھلے کے لئے یہاں طائف میں آتے ہیں اور طائف کے لوگ انہیں پتھر ڈھیلے مارتے ہیں' ان کے پیچھے کتے لگاتے ہیں۔' انہیں زدو کوب کرتے ہیں۔ اور وہ ان سب زیادتیوں کے باوجود اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوتے۔' بلکہ اس کے لئے دست بدعا ہوتے ہیں کہ "خدایا تو میری اس قوم کو ہدایت کر کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے"

میرا یہ جواب سن کر وہ دراز ریش آدمی کچھ نہ کہہ سکا۔ خاموش ہو کر رہ گیا۔

مکہ پہنچ کر ہم نے کچھ دن وہاں گزارے' پھر جدّے چلے آئے۔ جدّے میں کچھ دن گزارنے کے بعد ہم لوگ مدینے چلے آئے۔ ہمارا سارا قافلہ چار عورتوں اور چھ مردوں پر مشتمل تھا۔ اس زمانے میں موٹریں نہیں ہوا کرتی تھیں اور سفر اونٹوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ منزل رات کو طے کی جاتی تھی۔ چاروں طرف دشت و بیابان تھے' لیکن نجدیوں کی وجہ سے وہاں ایسا امن تھا کہ میں بیان کرنے میں قاصر ہوں۔

مدینے پہنچ کر ہم نے وہاں بھی کچھ دن گزارے اور وہاں سے ہم نے بیت المقدس جانے کا عزم کیا۔ اور ہم مدینے سے رابغ چلے گئے یہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے۔ تیسرے دن جہاز آیا۔ ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے اور سوئز کے مقام پر اتر گئے۔ سوئز سے ہم بذریعہ ریل گاڑی بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس میں میری اہلیہ سیڑھیوں سے گر پڑی اور جاں بحق ہو گئی۔ وہ اپنے پیچھے دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑ گئی۔ مجھے اس کی جدائی کا بڑا سخت صدمہ تھا۔ کیوں کہ وہ میری رفیقہ حیات تھی۔ اور اس کے بعد میں نے پھر شادی نہیں کی۔ حالانکہ میں جوان تھا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا اور میں شادی کے لئے تیار نہیں تھا۔ کچھ دن میں نے فلسطین میں گزار دیے اور اس جگہ کے مشہور مشہور مقامات دیکھے۔ پھر اس جگہ سے میں نے لبنان' شام اور عراق کی سیاحت کی۔ نجف اور کربلا کی زیارت بھی کی اور بغداد میں چند دن گزارنے کے بعد میں بصرے چلا گیا اور بصرے سے جو جہاز میں سوار ہوا تو کراچی آ کر اترا۔ لیکن

Marfat.com

اس میں اور حاجیوں کے جہاز میں بڑا فرق تھا- جس پر ہم کراچی سے جدے جاتے ہوئے سوار ہوئے تھے- اس میں بہت تکلیف اور اس میں بڑا آرام تھا- کراچی میں میں نے چند گزارے اور پھر وہاں سے واپس اپنے گاؤں آ گیا-

Marfat.com

"پشتون" کا اجراء

ہمارے صوبہ میں ایک بھی قومی اخبار نہیں تھا- میں نے ارادہ کر لیا کہ پختونوں کے لئے ان کی اپنی زبان میں ایک پشتو اخبار جاری کیا جائے جو صحیح معنوں میں قومی اخبار ہو اور قوم کی ملکیت ہو- اس مقصد کے لئے بڑی جدوجہد کے بعد مئی ۱۹۲۸ء میں میں اپنے اس عزم میں کامیاب ہوا - "پشتون" کے نام سے میں نے اخبار شائع کیا- یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پختونوں کو اپنی زبان سے کسی قسم کا انس و محبت نہیں تھی- اور نہ ہی وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے- حالانکہ ہر ایک قوم اپنی زبان سے پہچانی جاتی ہے اور اپنی زبان سے ہی کوئی قوم قوم ہوتی ہے- اپنی زبان کے بغیر کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی اور جو بھی قوم اپنی زبان کو بھلا دیتی ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے- افسوس کی بات ہے کہ پختون ایک ایسا بے پرواہ اور غافل انسان ہے کہ وہ جہاں بھی چلا جائے اس کی اپنی زبان تو رہ جاتی ہے اور دوسروں کی زبان سیکھ لیتا ہے- اس نے کہیں بھی ایسا نہیں کیا کہ دوسروں کو اپنی زبان سکھائی ہو- پختونوں کو اپنی زبان کے لکھنے پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے- ناخواندہ لوگوں کو تو رہنے دیجئے علم دانوں کو جب میں نے کہا کہ "پشتون" اخبار کے خریدار بن جاؤ اور اسے پڑھا کرو- کیوں کہ یہ پشتونوں کا اپنا پشتو زبان کا اخبار ہے تو اس کا جواب ان کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ پشتو میں کیا دھرا ہے اور وہ اس میں کیا پڑھے گا اور اس سے کیا سیکھے گا-؟

میں انہیں کہتا تھا کہ یہ تو پشتو کا قصور نہیں ہے- آج تم دنیا بھر کی جو زبانیں دیکھ رہے ہو یہ زبانیں بھی پہلے ہماری پشتو زبان کی طرح پچھڑی ہوئی تھیں- یہ کسی آسمان سے نہیں اتری تھیں- لیکن ان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زبانوں کی خدمت کی اور انہیں آسمان پر پہنچا دیا- اور ہم میں سے کس نے اس زبان کی خدمت اور ترقی کے لئے کوشش کی ہے-؟ زبانیں تو جادو کی چھڑی یا چھو منتر سے ترقی نہیں کرتیں - یہ تو ہمارے انگریزی کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کے

Marfat.com

خیالات تھے اور دوسری طرف ہمارے ملا ملائے یہ پراپیگنڈہ کرتے تھے کہ پشتو دوزخیوں کی زبان ہے اور یہ دوزخ میں بولی جائے گی۔ اور قوم بے چاری اتنی ناسمجھ اور بے علم تھی کہ اس نے ملا صاحب سے اتنا تو پوچھا ہوتا کہ دوزخ سے کب آئے ہو اور یہ معلومات تمہیں کس طرح حاصل ہوئی ہیں کہ پشتو دوزخی زبان ہے؟

انہیں ہی حالات میں "پشتون" اخبار جاری ہوا اور بہت جلد پشتونوں میں ہر دلعزیز ہو گیا اور دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی پشتون رہتے وہ اسے منگواتے تھے۔ امریکہ میں رہنے والے پشتونوں نے تو اس اخبار کی اشاعت کو فروغ دینے میں نمایاں مدد کی اور صرف انہوں نے اس کی اشاعت بڑھانے ہی میں نہیں بلکہ اس کی مالی معاونت بہم پہنچانے میں بھی حصہ لیا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ امان اللہ خان کے وقت میں افغانستان میں یہ اخبار بہت ہر دلعزیز تھا۔ اور اس نے لوگوں میں پشتو زبان کے ساتھ اتنی محبت و پیار پیدا کیا تھا۔ کہ امان اللہ خان اور ان کے ساتھیوں نے بھی پشتو کا ایک اخبار افغانستان سے بھی جاری کیا۔ جس کا نام "پشتون ژغ" تھا۔ امان اللہ خان کا خود پشتو زبان سے اتنا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ بقول کسے اس نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ تین سال کے اندر اندر ہر ایک سرکاری ملازم پشتو سیکھ لے کیوں کہ تین سال کے بعد پشتو سرکاری اور قومی زبان بن جائے گی۔ انگریزوں نے اسے ان کاموں کے کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ کہا جاتا ہے کہ "پشتون زغ" کے ابھی صرف نو پرچے ہی نکلے تھے کہ فرنگیوں نے ' ملانوں ' حضرتوں اور بزرگوں وغیرہ نام نہاد مذہبی رہنماؤں اور دینی عالموں کے ذریعے افغانستان میں آگ لگادی اور امان اللہ خان کو کافر قرار دے دیا۔ انہوں نے امان اللہ خان کو افغانستان سے باہر نکلوا کر ہی دم لیا یعنی اسے ٹلی چلے جانا پڑا۔

اب سوچئے پشتونوں کے اس عمل سے کسے نقصان پہنچا۔؟۔ خود انہی کو۔ امان اللہ خان تو ان کی بہبود ' فائدے ' ان کی آبادی ' شادابی اور ترقی کا خواہاں تھا مگر یہ لوگ اسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور دوست و دشمن میں تمیز نہ کر سکے اور جوش میں اپنے ہی سچے بہی خواہ کو ملک سے نکال دیا۔ یہ ان کی بے حد ناشکر گزاری تھی اور احسان فراموشی خدا کے ہاں بڑا بھاری جرم ہے۔ اسی لئے تو ان کے سروں پر خدا نے

Marfat.com

بچہ سقہ" مسلط کر دیا تھا-ان کی اور ان کے ملک کی تعمیر و ترقی کو تنزل میں بدل دیا تھا-

افغانستان کی بربادی کو ہم لوگ اپنی تباہی تصور کرتے تھے اور انگریزوں نے افغانستان کو ہماری وجہ سے تباہ کیا-کیوں کہ افغانستان کی ترقی کا اثر سیدھا ہم پر پڑتا تھا- اور فرنگی یہ نہیں چاہتے تھے-ہم سے جتنا بھی ہو سکتا تھا چاہے مالی طور پر یا جانی طور پر ہم نے اس مصیبت میں افغانستان کی امداد کی ہے اور اس وقت تک اپنی امداد جاری رکھی جب تک کہ نادر خان کامیاب نہ ہو گیا-

میں افغانستان کے انقلاب کے زمانے میں اس کے حق میں پروپیگنڈہ کرنے اور امداد فراہم کرنے کے لئے ہندوستان گیا تھا- پنجاب میں میں نے ڈاکٹر اقبال ظفر علی خان ملک لال خان اور ایسے ہی دوسرے بہت سے مسلمان لیڈروں سے ملاقات کی تھی-

لاہور میں ڈاکٹر اقبال سے ملنے پر میرے خلافت کے ساتھیوں نے بڑی مذمت کی تھی اور وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے کیوں ملاقات کی-وہ تو کسی کام کا آدمی نہیں ہے لیکن آج میں پنجاب کے اخباروں اور لیڈروں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ اسی اقبال کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا خیال سب سے پہلے اس کے ہی دل و دماغ میں آیا تھا-یہ تخیل اسی نے پیدا کیا تھا- پنجاب کے مسلمانوں کا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا بھر میں یہ قاعدہ جاری ہے کہ زندہ قومیں زندوں کی قدر کرتی ہیں-اور مردہ قومیں مردوں کی قدر کرتی ہیں-ہم مسلمان لوگ ہمیشہ مردوں کی قدر کرتے ہیں-ہمارے ہاں زندہ انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے-

Marfat.com

Marfat.com

مولانا محمد علی جوہر سے ملاقات

لاہور سے میں پھر لکھنو چلا گیا- لکھنو میں کانگریس کا جلسہ تھا اور اس میں گاندھی جی اور جواہر لال سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا - ان دونوں سے پہلے میری کوئی جان پہچان نہیں تھی- لیکن جواہر لال کے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب سے بڑے مراسم تھے- کیوں کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ انگلینڈ میں رہ چکے تھے- اور لندن کی یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھے تھے- ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک تعارفی خط ان کے نام لکھ دیا تھا- جب جلسہ ختم ہوا تو جواہر لال جو چودھری خلیق الزمان کے مہمان تھے' مجھے بھی اپنے ہمراہ اپنے میزبان کے گھر لے گئے- کھانا کھانے کے بعد میرے اور نہرو کے درمیان افغانستان کے بارے میں بہت باتیں ہوئیں-

لکھنؤ سے میں پھر دہلی چلا آیا- جمعہ کے روز مسجد میں مولانا محمد علی سے میری ملاقات ہو گئی- محمد علی بہت اچھے انسان تھے اور میرے بڑے مہربان تھے لیکن ان کے بڑے بھائی شوکت علی کوئی اچھے آدمی نہیں تھے مگر ان کا محمد علی پر بڑا اثر تھا- لہٰذا وہ کبھی کبھار محمد علی کو غلط راستے پر چلا دیا کرتے تھے- یہی وجہ تھی کہ میں محمد علی سے ناراض تھا اور ان سے میں نے قدرے پہلو بچایا مگر انہوں نے مجھے دیکھ ہی لیا- وہ خود میرے پاس چلے آئے اور مسکرا دیے اور ہنسی خوشی میں مجھ سے کہہ دیا "ہم ہندوستانوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے-"

پھر کیا تھا تھوڑی نوک جھونک ہو گئی- میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا "ہم بھی ایسے لیڈروں کی پرواہ نہیں کرتے جو لوگوں کے ورغلانے سے غلط راستے پر چلتے ہیں-"

Marfat.com

لگے ہاتھوں میں نے یہ بھی کہہ دیا "مولانا صاحب آپ ذرا فکر کریں آپ جو باتیں امان اللہ خان کے بارے میں کہتے ہیں وہی تو انگریز بھی کہتے ہیں"۔

اس بات کا ان پر گویا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے فوراً مجھے گلے سے لگالیا اور کہا "بھائی مجھے حقیقت سے آگاہ کر دو۔"

اس کے بعد محمد علی صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ امان اللہ خان جس وقت یورپ جا رہے تھے اس وقت شوکت علی صاحب نے بڑی دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں ایک سپاسنامہ بھی پیش کیا تھا۔ اس سپاسنامے میں شوکت علی صاحب نے امان اللہ خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے میں بھی اس تقریب میں موجود تھا لیکن وداع کے بعد میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ شوکت علی کو جس قدر توقع تھی امان اللہ خان نے اتنے پیسے انہیں نہیں دیے اس لئے وہ امان اللہ خان سے ناراض تھے۔

Marfat.com

خدائی خدمت گار تحریک کا آغاز

کچھ دنوں کے بعد نادر خان کی طرف سے کابل کی فتح کا تار موصول ہوا تو ہم نے بڑی خوشی منائی - اس خوشی میں لوگوں نے ایک جلوس ہشت نگر کے شمالی سرے اور دوسرا جلوس ہشت نگر کے نچلے سرے سے نکالا - یہ دونوں جلوس اتمان زئی میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور اس جگہ ایک بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا جلسہ میں بے شمار قومی نظمیں پڑھی گئیں اور تقریریں بھی ہوئیں اور میں نے بھی اس موقع پر ایک تقریر کی -

میں نے اپنی تقریر میں پٹھانوں سے کہا کہ "دنیا میں دو ہی راستے ہیں جن پر چل کر قومیں ترقی کر سکتی ہیں - ایک مذہب اور دوسرا قومیت - آج اگر تمہیں علم حاصل نہ ہو تو آنکھیں تو موجود ہیں - یورپ اور امریکہ کو دیکھو جن میں مذہب تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر قومیت موجود ہے - یہی وجہ ہے کہ وہ آسمان تک جا پہنچے ہیں اور ہم ہیں کہ زمین پر بھی نہیں چل سکتے - وہ آباد ہو گئے ہیں اور ہم برباد ہیں - ان کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو بھی دیکھو - ہماری اس تباہی و بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں نہ مذہب ہے اور نہ قومیت - دنیا میں ایک عظیم انقلاب آ رہا ہے اور تم لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں - میں حال میں ہندوستان گیا تھا - وہاں میں نے دیکھا کہ ہندوستان کی عورتوں اور مردوں دونوں نے اپنی قوم کی خدمت کے لئے کمر کس رکھی ہے اور تمہاری عورتوں کی بات تو الگ رہی یہاں مرد بھی خدمت کے لئے تیار نہیں ہیں اور تیاری کی بات تو کیا وہ قوم اور ملک سے نا آشنا ہیں - انقلاب ایک سیلاب ہوتا ہے - اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی - اس سے قومیں آباد بھی ہوتی ہیں

Marfat.com

اور برباد بھی-اس سے کون سی قومیں فائدہ اٹھاسکتی ہیں جو جاگ رہی ہوتی ہیں' جن قوموں میں پریم محبت اور اتفاق ہوتا ہے -انقلاب ایک سیلاب ہوتا ہے اور جو قومیں بیدار ہوتی ہیں وہ سیلاب کے انتظار میں کھڑی رہتی ہیں اور جونہی سیلاب آتا ہے وہ سیلاب کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور اسے اپنی زمینوں کی طرف موڑ دیتی ہیں-اس سے استفادہ کرلیتی ہیں اور جو قومیں خوابیدہ ہوتی ہیں جن میں بھائی چارہ باہمی ملاپ اور قوم پروری کا فقدان ہوتا ہے اور جو خود غرض ہوتی ہیں ان پر جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ قومیں بہہ جاتی ہیں- سیلاب ایسی قوموں کو بھی بہالے جایا کرتا ہے اور ان کی زمینوں کو بھی-"

اس کے بعد میں نے حاضرین سے پھر کہا" اے بٹھانو تم ان ترقی یافتہ قوموں کو دیکھو تمہارا یہ خیال ہو گا کہ یہ قومیں شاید اسی حالت میں آسمان سے اتری تھیں' لیکن ایسی بات نہیں ہے- یہ بھی ہماری طرح کی قومیں ہیں-تو پھر انہوں نے کیوں کر ایسی ترقی کرلی اور ہم کیوں پچھڑ گئے؟ یہ بات قابل غور ہے-ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا ذاتی عیش' اپنا آرام' اپنی ترقی اور اپنی آبادی قوم کی آبادی پر قربان کر دی اس سے ان کی پوری قوم خوش حال اور بلند مرتبت ہو گئی لیکن ہم میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے اس لئے ہم پیچھے رہ گئے- دوسرے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی قوم ترقی کرلے گی تو وہ بھی ترقی کرلیں گے-

لیکن ہم لوگوں کو اپنی اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے-ہم میں ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ قوم کو چاہے دریابرد کر دے مگر کسی طرح سے وہ خود آباد ہو جائے-وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اگر وہ آباد ہو گیا تو ایک صرف وہی آباد ہوا اس سے قوم تو آباد نہیں ہوتی اور اگر قوم آباد ہو جاتی ہے تو ہم سب آباد ہو جاتے ہیں-دوسری قوموں کی زندگی اجتماعی زندگی ہے اور ہماری زندگی انفرادی زندگی ہے اور انفرادی زندگی تو حیوانوں کی زندگی ہے-جانور بھی اپنے لئے گھونسلہ بناتا ہے اور مادہ بھی رکھتا ہے-بچے بھی پیدا کرتا ہے-بچوں کو پالتا اور بڑا کرتا ہے-اور ہم بھی یہی کام کرتے ہیں-اس اعتبار سے ہم میں اور حیوان میں کیا فرق ہے-؟ ہم اشرف المخلوقات کیسے بن بیٹھے ہیں؟--

Marfat.com

اسی لئے میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اگر تم پہلے ملک اور قوم کی ترقی اور خوش حالی چاہتے ہو تو اس انفرادی زندگی کی بجائے قوم کے اندر اجتماعی زندگی پیدا کرو ------اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتیں۔

تقریر کو جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا "میں نے سنا ہے کہ امان اللہ خان کہا کرتا تھا کہ "میں پشتونوں کا انقلابی بادشاہ ہوں" یہ حقیقت ہے کہ ہم پشتونوں میں تو انقلاب اسی نے پیدا کیا ہے اور افغانستان کے انقلاب سے جتنا فائدہ پشتونوں نے اٹھایا ہے اتنا استفادہ خود افغانستان کے لوگوں نے نہیں کیا کیوں کہ وہ سو رہے تھے اور ہم تھوڑے تھوڑے جاگ چکے تھے۔"

اس جلسہ کا لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور دوسرے دن چند نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ قوم کی خدمت اور اصلاح کے لئے ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے درمیان صلاح و مشورے شروع ہو گئے۔ ہماری ایک جماعت پہلے ہی موجود تھی "اصلاح الافاغنہ"------یہ جماعت ہمارے صوبے میں تعلیم پھیلانے کا کام کر رہی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ جماعت تو یہی کام کرتی رہے کیوں کہ یہ کام بڑا ضروری تھا لیکن ہماری قوم میں اور بہت سی سوشل کمزوریاں اور عیب ہیں۔ اور سماجی طور پر ہم بہت پس ماندہ ہیں۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے ہمیں ایک الگ سوشل تحریک جاری کرنی چاہئے۔ چنانچہ ہم نے "خدائی خدمت گاری" جو ایک سوشل تحریک تھی بنیاد رکھ دی اس تحریک کا سیاست سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا۔ لیکن فرنگیوں کے ظلم و تشدد نے اس کا تعلق سیاست سے بھی پیدا کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کانگریس سے خود انگریزوں نے یکجا کیا ہے۔

ہم پٹھانوں میں پارٹی بازیاں، باہمی دشمنیاں، بغض و عناد بری رسمیں اور برے رواجات موجود تھے۔ ہمارے درمیان جھگڑے اور فسادات بھی چلتے تھے۔ اور جو کچھ ہم پیدا کرتے تھے تو وہ سب کچھ ہم برے رسم و رواج، جھگڑے فسادات اور مقدمہ بازی کی نذر کر دیتے تھے اور خود اسی طرح بھوکے پیاسے ننگے اور بدحال رہ جاتے تھے۔ ہم نہ تو تجارت کا کام کرتے تھے اور نہ ہی زراعت کا اور نہ ہی ان کاموں کے لئے ہمیں فرصت تھی۔ بڑے سوچ بچار

Marfat.com

اور صلاح و مشورے کے بعد ۱۹۲۹ء میں ہم نے یہ جماعت بنائی اور اسے ہم نے "خدائی خدمت گاری" کا نام دے دیا- یہ نام بھی اس جماعت کا ہم نے ایک خاص غرض سے رکھا تھا - کیونکہ پٹھانوں میں ہم لوگ خدا کے واسطے اپنی قوم و ملک کی خدمت کا خیال اور جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے - اور یہ اس لئے کہ پٹھانوں میں خدا کے لئے اپنی قوم و ملک کی خدمت کا جذبہ مفقود تھا- دوسری بات یہ تھی کہ پٹھانوں کے اندر تشدد بھرا ہوا تھا اور ان کا یہ تشدد غیروں کے لئے نہیں تھا بلکہ ان کا سارا تشدد اپنی قوم اور اپنے بھائی بندوں ہی کے خلاف تھا- جو بھی آدمی ان کا بہت قریبی رشتہ دار ہوتا تھا وہ ان کے تشدد کے ہاتھوں ہمیشہ آگ میں کھڑا رہتا تھا اور ان کے تشدد کی ساری آگ اپنے بھائی اور عزیز ہی کے اوپر برستی تھی- اس کے علاوہ پٹھانوں میں ایسی پارٹی بازی اور پھوٹ تھی کہ اس سے ان کا گھر برباد تھا- علاوہ ازیں ان کے رجعت پسندانہ رسم و رواج ان کو تباہ و برباد کر رہے تھے- ان میں انتقام کا جذبہ بھی غیر معمولی تھا اور ان میں اچھے اخلاق اور اچھی عادات کا بھی فقدان تھا-

ان حالات کے پیش نظر جماعت "خدائی خدمتگاری" کا ممبر بننے کے لئے ممبر کو یہ قسم لینا اور یہ وعدہ کرنا پڑتا تھا- "میں خدائی خدمت گار ہوں اور چونکہ خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا خدا کی مخلوق کی خدمت ہی خدا کی خدمت ہے- لہٰذا میں مخلق خدا کی خدمت بغیر کسی غرض و مطلب صرف خدا کے واسطے کروں گا-"

خدائی خدمتگار کو دوسرا وعدہ یہ کرنا پڑتا تھا- "میں تشدد نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سے انتقام یا بدلہ لوں گا- مجھ پر کوئی چاہے کتنا ہی ظلم اور زیادتی کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا-" خدائی خدمت گار یہ بھی حلف اٹھاتا تھا- "میں باہمی پھوٹ، گروہ بندی اور دشمنی و خانہ جنگی سے دور رہوں گا اور ہر ایک پختون کو اپنا بھائی اور دوست سمجھوں گا--- میں رسم و رواج چھوڑ دوں گا- سادہ زندگی بسر کروں گا اور نیک کام کروں گا اور برائیوں سے جان بچاؤں گا- اور یہ کہ میں اپنے اندر اچھے اخلاق اور اچھی عادات پیدا کروں گا- میں بیکاری کی زندگی نہیں بسر کروں گا-"

علاوہ ازیں ہر ایک خدائی خدمتگار پر یہ پابندی تھی کہ چاہے وہ امیر ہے یا غریب، دن میں دو گھنٹے جسمانی مشقت سب کو کرنا پڑے گی-

دسمبر ۱۹۲۸ء میں کلکتہ میں خلافت کانفرنس ہوئی- صوبہ سرحد سے ہم لوگ بھی اس

Marfat.com

میں شمولیت کے لئے گئے - کلکتہ میں پشاور کے اور بھی بہت سے لوگ رہتے تھے' جو میوہ جات کی تجارت کرتے تھے - جب خلافت کانفرنس شروع ہوئی تو ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی کہ پنجابیوں کے محمد علی و شوکت علی سے بڑے سخت اختلافات ہیں -

پنجابی ایک عجیب و غریب مخلوق ہیں - ایک مثال ملاحظہ فرمایئے - ایک دن "زمیندار" کے دفتر میں اختر علی خان سے یہ شکایت کر رہا تھا کہ دیکھو میرے اور تمہارے والد کے مابین کتنے اچھے تعلقات ہیں - اگر پنجاب کے دوسرے اخبارات میرے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں تو کم از کم تمہیں تو نہیں چاہئے کہ میرے متعلق پنجاب میں غلط فہمیاں پھیلاؤ -"

میری یہ شکایت سن کر اختر علی خان ہنس پڑے اور بولے - "ہماری یہ فطرت ہے کہ نہ تو ہم اپنے پنجاب کے کسی لیڈر کو بخشتے ہیں' نہ ہی ہندوستان کے کسی رہنما کو نظر انداز کرتے ہیں بلکہ عادتاً سب کی پگڑی اچھالتے رہتے ہیں -"

یہی تماشہ کلکتہ میں بھی پنجابیوں نے سبجیکٹس کمیٹی کے اجلاس میں کیا - ایک رات خلافت کی سبجیکٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور ہم سب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے - ایک پنجابی لیڈر تقریر کر رہے تھے اور اپنی تقریر میں وہ محمد علی صاحب پر کچھ نکتہ چینی اور حملے کر رہے تھے -

محمد علی صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ صبر نہیں کر سکے اور غصے میں آ گئے اور ان کے منہ سے اس پنجابی لیڈر کے خلاف ناشائستہ کلمات نکل پڑے - ہمارے پاس ہی ایک طرف ایک اور پنجابی بھی بیٹھا ہوا تھا - اس نے محمد علی کے منہ سے جونہی یہ گالی گلوچ سنی تو وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا' چاقو نکال لیا اور جواب میں محمد علی کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیا - اسٹیج پر ایک زبردست ہنگامہ بپا ہو گیا - یہ اچھا ہوا کہ ہم پٹھان لوگ اس رات سبجیکٹس کمیٹی کے جلسے میں بہت زیادہ تعداد میں شریک تھے - ہم اٹھ کھڑے ہوئے - جھگڑا ختم کرا دیا اور محمد علی صاحب کو ان سے مخلصی دلادی - اگر ہم نہ ہوتے تو انہوں نے محمد علی کو سخت بے عزت کیا ہوتا -

ان دنوں کلکتہ میں کانگریس کا جلسہ بھی جاری تھا اور حالات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ محمد علی ہندوؤں سے ناراض ہیں' کیونکہ انہوں نے اپنے خلافت کے صدارتی خطبے میں

Marfat.com

ہندوؤں پر بڑے سخت حملے کئے تھے اور ان کے تمدن' معاشرت اور رسم و رواج پر بڑے اوچھے طریقے سے نکتہ چینی کی تھی- یہ چیزیں ایک لیڈر کے شایان شان نہیں تھیں اور ہماری کانفرنس میں کوئی خاص لطف نہیں تھا- میں نے سوچا کہ چلو جاکر کانگریس کا وہ جلسہ دیکھ آئیں- اس وقت کانگریس کی سبجیکٹس کمیٹی کا اجلاس تھا- میں اسے دیکھنے کے لئے چلا گیا-

میں کانگریس کے جلسوں میں پہلے کبھی نہیں شامل ہوا تھا- اس وقت گاندھی جی تقریر کر رہے تھے- وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا جسے لوگ راجہ کہہ کر پکارتے تھے- وہ ان کی تقریر کے بیچ میں بار بار کھڑا ہو جاتا اور گاندھی جی پر حملے کرتا- گاندھی جی بالکل غصے میں نہیں آتے تھے بلکہ وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑتے اور پھر اپنی تقریر شروع کر دیتے- وہ نوجوان پھر مداخلت کرتا- گاندھی جی پھر ہنس دیتے- اس کا مجھ پر بے حد اثر ہوا- اور میں جب واپس اپنے کیمپ میں آیا تو میں نے یہ سرگزشت اپنے ان ساتھیوں کو سنائی اور میں نے انھیں کہا کہ دیکھ لو' یہ ہندوؤں کو لیڈر رہے ہے- اس کے اخلاق کو دیکھو اور اپنی کانفرنس کے ان لیڈروں کے اخلاق کو بھی دیکھو-

ہمارے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا- اس جذبے کے زیر اثر ہم کچھ پٹھان اصحاب محمد علی صاحب کے پاس گئے- ہم اس بارے میں ان سے چند باتیں کرنا چاہتے تھے' کیونکہ وہ ہمارے لیڈر تھے- ہم نے محمد علی صاحب کے ساتھ اپنی بات چیت اس طرح شروع کی-

" محمد علی صاحب! آپ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں- ہم آپ کی توقیر اور عزت چاہتے ہیں- ہم کل کانگریس کی سبجکٹس کمیٹی کے اجلاس میں گئے تھے- اس وقت گاندھی جی تقریر کر رہے تھے- ان کی تقریر کے درمیان ہی ایک نوجوان ان کی مخالفت اور ان پر نکتہ چینی کرتے تھے- یہاں تک کہ انہیں ناشائستہ الفاظ سے مخاطب کرتے تھے- لیکن گاندھی جی ان کے سامنے ہنس دیتے تھے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مداخلت اور نکتہ چینی کی وجہ سے شاید ہی ان کی تقریر میں کسی قسم کی تیزی یا تندی پیدا ہوئی ہو- یہ بات ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے رہنما ہیں- ہم آپ کی برتری کے خواہاں ہیں' اس لئے اگر آپ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کر لیں گے تو یہ بہت اچھا ہو گا-"

محمد علی صاحب ہماری یہ باتیں سنتے ہی بہت ناراض اور غضب آلود ہو گئے اور بول

Marfat.com

اٹھے۔" دیکھو جنگلی پٹھان محمد علی کو سمجھانے آئے ہیں۔"

یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں وہیں چھوڑ کر خود کہیں اور چلے گئے۔ہم ان کے اس رویے سے بڑے مایوس اور دل میں ناراض ہوئے۔اس دن سے میں پھر کبھی خلافت کے ان جلسوں میں شریک نہیں ہوا اور واپس چلا آیا۔

اس کے بعد دسمبر ۱۹۲۹ء میں لاہور میں کانگریس کا اجلاس ہوا۔اس اجلاس میں ہمارے صوبے کے بھی بہت سے لوگ شریک ہوئے۔میں بھی شریک ہوا۔اجلاس میں یہ بات دیکھ کر ہم پٹھان لوگوں پر زبردست اثر ہوا کہ وہاں مردوں کی بات تو رہنے دیجئے لڑکیوں نے بھی ملک و ملت کی خدمت کے لئے کمر کس رکھی تھی۔پشتون عورتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔یہاں جب عورتوں کو اس قدر مستعد اور سرگرم دیکھا تو ہم پر اس بات کا اثر ہونا قدرتی امر تھا۔ہم صوبہ سرحد سے جتنے لوگ بھی وہاں گئے تھے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اپنے لوگوں کے مابین ہم نے بھی جلسہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اپنی قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہئے۔یہ جذبہ کانگریس کی یہ کانفرنس دیکھ کر ہی ہمارے اندر پیدا ہوا۔ علاوہ ازیں ہمارے نزدیک یہ امر بھی کافی اہمیت رکھتا تھا کہ کانگریس کے اجلاس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کی قرارداد بھی منظور ہوئی تھی۔

ہم لوگ جب لاہور سے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو ہم نے کام شروع کر دیا۔ہم لوگ گاؤں گاؤں پھرتے تھے۔تقریریں کرتے تھے' جرگے بناتے تھے۔خدمت خلق کے لئے "خدائی خدمتگار" بھرتی کرتے تھے۔ہماری یہ تحریک بہت جلد سارے صوبے میں پھیل گئی بلکہ ہمارے قبائل میں بھی جا پہنچی اور اتنی ہر دلعزیز ہو گئی کہ جس گاؤں میں بھی ہم جاتے تھے وہاں جرگہ اور خدائی خدمتگار جماعتیں قائم ہو جاتی تھیں۔اس کے علاوہ ہماری اس تحریک نے سب سے بڑی بات یہ پیدا کر دی کہ لوگوں کے دلوں سے انگریز حکومت کا خوف اور دہشت کا نقش مٹ گیا اور ان کے اندر حریت کا ایک زبردست جذبہ موجزن ہو گیا۔جب ہم دورے پر نکلتے تھے تو پولیس اور سی۔آئی۔ڈی کے علاوہ کبھی کبھی خود فرنگی بھی ہمارے ان جلسوں کو دیکھنے آیا کرتے تھے اور وہ بھی حیران ہوتے تھے۔کہ یہ اتنا عظیم انقلاب کس چیز نے پیدا کر دیا ہے۔وہ لوگ مجھ سے بھی کبھی کبھار پوچھا کرتے تھے کہ یہ تم نے پٹھانوں پر کیا جادو کر دیا ہے؟ دراصل انہیں ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔چند مہینوں تک تو انگریزوں نے

Marfat.com

بڑے صبر و تحمل سے ہمارے کام کو دیکھا بھالا- اور ہمیں لمبی مہلت دے دی- ادھر ان چار مہینوں میں ہم نے بھی دن رات اتنا زیادہ کام کیا کہ ہماری یہ تحریک سارے صوبے میں پھیل گئی- ابھی قریباً تین ماہ کام کرتے ہوئے ہم نے گذارے تھے کہ چیف کمشنر نے میرے نام حکم بھیج دیا کہ "یہ تم نے کیا سلسلہ ملک میں جاری کر رکھا ہے؟ اسے فوراً بند کر دو-"

میں نے اس حکم کے جواب میں چیف کمشنر صاحب کو یہ لکھا کہ "یہ تو ایک سوشل تحریک ہے' سیاسی نہیں ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ملک کی سرکار کو کرنا چاہئے- یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے' آپ کے کرنے کا ہے- اب اگر آپ کا یا حکومت کا یہ کام ہم کر رہے ہیں تو آپ کو اس کام میں میری مدد اور تعاون کرنا چاہئے-"

چیف کمشنر نے مجھے کہا- "میں مانتا ہوں کہ آج یہ کام سوشل ہے اور اگر تم ان پٹھانوں کو کبھی منظم کر لو تو پھر اس کی کیا دلیل اور ضمانت ہے کہ تم انہیں ہمارے خلاف استعمال نہیں کرو گے-"

میں نے ان سے کہا کہ قوموں کی ضمانت اعتماد پر ہوتی ہے- آپ ہم پر اعتماد کیجئے تو ہم آپ پر اعتماد کریں گے- ہم آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے- ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور انقلاب تو ایک سیلاب ہوتا ہے- ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ پٹھانوں کو منظم کرتے ہیں- مبادا وہ اس انقلاب میں ہم سے بہہ جائیں-"

Marfat.com

ہماری اس بات کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا لیکن انگریزوں نے ہم پر اعتماد نہ کیا- اور جب اپریل ۱۹۳۰ء میں اتمان زئی میں ہم خدائی خدمت گاروں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو چکا اور میں اس جلسے کے بعد پشاور جا رہا تھا تو راستے میں ناکی تھانے کے پاس مجھے گرفتار کر لیا گیا اور واپس چارسدہ لایا گیا-میرے ساتھ میاں احمد شاہ جو ہمارے صدر تھے اور عبدالاکبر خان جو سکریٹری تھے اور سالار سرفراز خاں و حاجی شاہنواز خان' جو ہمارے جلسے کے منتظم تھے وہ سب بھی گرفتار کر لئے گئے-

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب مجھے ناکی تھانے کی حدود میں گرفتار کیا گیا تو اس وقت میرے ساتھ کوئی خدائی خدمت گار رضاکر نہیں تھا- ناکی تھانے کے لوگوں نے جب میری گرفتاری دیکھی تو انہیں بڑا غصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ انگریزوں نے ہماری بے حرمتی کی ہے کہ بادشاہ خان کو ہماری حدود کے اندر گرفتار کیا ہے- لہٰذا اپنے اس قہر اور غصے کا جواب ناکی تھانے کے لوگوں نے ایک ایسے شائستہ طریقے سے دیا کہ اس سے میں بہت خوش ہوا اور وہ یہ کہ انہوں نے خدائی خدمت گاری کا اعلان کر دیا- خود بھی سرخ پوش بن گئے اور مجھے بھی انگریزوں کے سامنے' جن سے میری جنگ تھی' سرخرو کر دیا-

میری گرفتاری کی خبر تیزی سے عوام میں پھیل گئی- چارسدہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے قہر اور غصے کا اظہار کرنے کے لئے جمع ہوئے- اسی طرح اس دن پشاور میں بھی ہمارے ساتھی گرفتار کئے گئے تھے- اور ہماری ان گرفتاریوں کی وجہ سے قصہ خوانی بازار پشاور میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور گولیاں برسائی گئیں جس میں بڑی بھاری تعداد میں لوگ شہید ہو گئے اور ۲۳ اپریل کا دن جس دن یہ واقعہ ہوا تھا' ایک عظیم تاریخی اہمیت سے

Marfat.com

وابستہ ہو گیا۔

چارسدہ میں بھی لوگوں نے حوالات کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا لیکن چونکہ ہم نے لوگوں کو عدم تشدد کا درس دیا تھا اور ڈاکٹر خان صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھا دیا اس لئے وہاں کسی قسم کا تشدد نہ ہوا۔ شام کے وقت ہمیں موٹر میں بٹھایا گیا۔ مردان سے ایک فوجی رسالا آیا تھا۔ رسالے کا کچھ حصہ ہماری موٹر کے آگے اور کچھ پیچھے تھا۔ اس طرح ہمیں مردان پہنچا دیا گیا۔ اسی شام کو ہمیں مردان کے جیل خانے میں بند کر دیا گیا۔ رات ہم نے جیل خانے میں گذاری اور دوسرے دن ہمیں رسالپور لے جایا گیا۔ یہاں ہمارے علاقے کا مجسٹریٹ خان بہادر قلی خان آیا ہوا تھا۔ ہمیں اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے ہمیں دفعہ چالیس کے تحت تین تین سال قید کی سزا دے دی اور اس جگہ سے ہم پنجاب کے گجرات جیل میں بھیج دئے گئے۔ جب ہم جیل خانے میں پہنچے تو وہاں پشاور کے ہمارے دوسرے ساتھیوں علی گل خاں سید لال بادشاہ وغیرہ دوسرے اصحاب کو بھی لایا جا چکا تھا۔ اس جیل خانے میں پنجاب، دہلی اور صوبہ سرحد کے لیڈر سیاسی قیدی تھے۔ ان میں چاہے سکھ اور ہندو تھے یا مسلمان تھے سبھی اصحاب نہایت معقول اور سنجیدہ مزاج تھے۔ اس جیل خانے میں میں نے جس قدر مذہبی علمی اور سیاسی فائدے حاصل کئے اور جو اعلیٰ، پر مسرت اور شاندار زندگی گذاری ویسی زندگی مجھے دوسرے کسی جیل خانے میں پھر کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہاں عالموں کی جو شائستہ سوسائٹی مجھے ملی تھی ویسی سوسائٹی بھی پھر مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہاں کی بہت سی باتیں میرے ذہن پر اتنے گہرے نقوش چھوڑ گئیں کہ تازیست نہیں مٹیں گے۔

ڈاکٹر انصاری صاحب نے ہمارے لئے قید خانے میں پارلیمنٹ قائم کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ خدا ہمیں بہت جلد حکومت دینے والا ہے اس لئے مناسب ہے کہ ہم اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ ہمیں پارلیمنٹ سے متعلقہ کاموں کی تربیت دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر گوپی چند ہمیں مختلف قسم کی کتابیں منگوا دیا کرتے تھے اور روہتک کے لالہ شام لال وہ کتابیں ہمیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ایک رائے زادہ ہنسراج تھے۔ جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی تو ان کی اہلیہ صاحبہ ہمارے لئے قسم قسم کی کھانے کی چیزیں لایا کرتی تھیں۔ میں نے اور پنڈت جگت رام ہریانوی نے قرآن اور گیتا کے درس جاری کر رکھے تھے اور ہماری

Marfat.com

یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہندو قرآن سے آگاہ ہو جائیں اور مسلمان گیتا سے۔ظفر علی خان اور ڈاکٹر کچلو کے درمیان ہمیشہ صدارت کے لئے جنگ ہوتی تھی اور دونوں ہمیشہ ہم سرحدیوں کی خوشامدیں کیا کرتے تھے۔کیونکہ ہم جس کسی فریق کا ساتھ دے دیتے اسی فریق کا آدمی صدر منتخب ہو جاتا تھا۔ایک اور صاحب سنٹھی جی تھے جو اکثر پکوڑے تل کر گرم گرم ہم میں تقسیم کرتے تھے۔دیوداس گاندھی بھی چند ایک مہینوں کے لئے اسی جیل خانے میں آیا تھا۔مفتی کفایت اللہ صاحب ماش کی دال پکایا کرتے تھے۔وہ بڑی لذیذ ہوا کرتی تھی۔مگر اس میں مرچیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔

ایک دن ہمارے ساتھ جیل خانے میں جو سکھ بھائی تھے' انھوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے کہا۔"گجرات شہر میں جھٹکا نہیں ہوتا ہے مگر ہم جھٹکا کھاتے ہیں' اس لئے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں اپنے کھانے کے لئے مرغی کا جھٹکا کر لیں گے۔آپ کی مہربانی ہوگی۔"

سپرنٹنڈنٹ سے یہ جواب پاکر سکھوں کے ایک رہنما میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔"سپرنٹنڈنٹ کہتا ہے کہ جھٹکے پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے اور آپ اس بات کے مخالف ہیں۔"

سپرنٹنڈنٹ سے یہ جواب پاکر سکھوں کے ایک رہنما میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔"سپرنٹنڈنٹ کہتا ہے کہ جھٹکے پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے اور آپ اس بات کے مخالف ہیں۔"

میں نے سردار صاحب سے پوچھا۔"سردار صاحب! یہ جھٹکہ آپ لوگ کریں گے اور آپ ہی کھائیں گے۔؟"

سردار صاحب نے جواب دیا۔"ہاں ہم ہی کریں گے اور ہم ہی کھائیں گے۔"

تب میں ان سے کہا کہ "اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔" اس کے بعد میں نے اپنے وہ ساتھی اکٹھے کئے۔ان میں سے سید لال بادشاہ جھٹکے کے مخالف تھے۔میں نے انہیں کہا کہ "سید صاحب! اگر کوئی شخص حلال کی مخالفت کرے تو آپ یہ باتیں کیسی محسوس کریں گے؟"

سید صاحب نے جواب دیا۔"یہ تو ہمارا مذہب ہے۔مذہب کی کوئی کیوں مخالفت کرے گا۔"

Marfat.com

میں نے انہیں کہا۔ "جھٹکا ان کے مذہب میں ہے۔ ہمارے لئے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔"

میری اس دلیل سے سید صاحب قائل ہو گئے اور انہوں نے اپنی مخالفت واپس لے لی۔

Marfat.com

ولی خان سنگین کے وار سے بچ گیا

ادھر ہمیں گجرات کی جیل میں بند کر دیا گیا' ادھر ہمارے ملک میں لوگوں پر حکومت نے بڑا سخت قسم کا ظلم اور تشدد شروع کر دیا- ہمارے صوبے کا ایسے محاصرہ کر لیا گیا کہ صوبے کے لوگ باہر نہ جا سکیں اور وہاں کے عوام میں اپنی گریہ و زاری فریاد یا پروپیگنڈہ نہ کر سکیں اور دنیا کے لوگوں کو انگریزوں کے ان مظالم سے آگاہ نہ کر پائیں جو پٹھانوں پر بے تحاشہ توڑے جا رہے تھے- علاوہ ازیں باہر کے لوگوں کو بھی ہمارے صوبے میں آنے نہیں دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہمارا حال نہ دیکھ لیں- ملک کے اندر لوگوں پر آگ کے شعلے بھڑکا رکھے تھے-

ان حالات میں بھی ہمارے ایک دو ساتھی میاں جعفر شاہ اور میاں عبداللہ شاہ بڑے سخت عذاب سے گذر کر اور دریائے سندھ کو عبور کر کے ہمارے پاس پہنچ گئے- میری ملاقات تو بند تھی- یعنی مجھے کسی کے ساتھ ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی لیکن انہوں نے ہمارے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کی اجازت حاصل کر لی اور انہیں صوبہ سرحد کے حالات سے آگاہ کر دیا- ہمارے ان ملاقاتیوں نے بتایا کہ تحریک کو چھوڑئے' انگریز تو پٹھانوں کے بچے بچے کو کچل دینا چاہتے ہیں اور ان کے وجود کو مٹا دینے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں- جس وقت ہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اپنے صوبے سے باہر پنجاب میں لا کر گجرات کے جیل میں بند کر دیا گیا تھا' اس وقت وہاں فوج پہنچ گئی تھی- اور اس نے اتمان زئی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا سب سے پہلے فوجی جوان خدائی خدمت گاروں کے دفتر پر چڑھ گئے اور دوسری منزل سے 'جہاں ہمارا دفتر ہے' تمام خدائی خدمتگاروں کو نیچے پکی سڑک پر پھینک دیا- میرا لڑکا ولی اس وقت چودہ پندرہ سال کا تھا- اسکول سے چھٹی ملنے پر دفتر میں آ گیا تھا اور دفتر میں وہ خدائی خدمت گاروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گورے نے اسے سنگین مارنی چاہی لیکن ایک

Marfat.com

صوبیدار نے سنگین کے آگے اپنا ہاتھ بڑھادیا اور اسے بچالیا-اسی صوبیدار نے ولی کو ہاتھ سے پکڑ کر اور آہستہ سے نیچے اتار دیا-فوجیوں نے خدائی خدمت گاروں کے دفتر میں آگ لگادی اور اسے جلاکر خاکستر کر دیا-پھر گاؤں کا رخ کیا اور سرخ کپڑے پہننے والے جتنے لوگ تھے وہ سب گرفتار کر لئے گئے اور انہیں بڑی بے دردی سے زدوکوب کیا گیا-

اس کے بعد ڈپٹی کمشنر لوگوں سے مخاطب ہوا اور بڑے قہر اور غرور میں اس نے کہا-"کیا اب بھی کوئی سرخ پوش باقی ہے؟" ڈر کے مارے کسی شخص کو زبان کھولنے کی ہمت نہ پڑتی تھی-اتنے میں ہمارے گاؤں کے ایک خان محمد عباس خان جو وہاں کھڑے تھے' ڈپٹی کمشنر کی یہ بات سن کر دوڑ کر گھر گئے-لال رنگ دیگ میں ڈالا اور فوراً اس سے اپنے کپڑے رنگ لئے اور اپنے نوکروں کے کپڑے بھی رنگ دئے اور یہ سرخ کپڑے انہوں نے پہن لئے-کپڑوں سے ابھی پانی بہہ رہا تھا کہ دوڑ کر پھر اسی جگہ آ گئے اور فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انگریز ڈپٹی کمشنر سے کہا-"یہ ہیں سرخ کپڑے-دیکھو میں نے پہن رکھے ہیں-"

محمد عباس خان باقاعدہ خدائی خدمت گار بھی نہیں تھے اور ہم سے تھوڑا بہت ناراض بھی تھے-پھر بھی انہوں نے بڑی خودداری اور وطن پرستی کا ثبوت پیش کیا-فوج نے انہیں بھی گرفتار کر لیا-لیکن ان کی اس جرائت اور قربانی نے پٹھانوں کے اندر وہ دلیری پیدا کر دی کہ انگریزوں کے بے انتہا زور ظلم اور تشدد کے باوجود سرخ کپڑے ختم نہ ہوئے بلکہ دن بدن ان میں اضافہ ہونے لگا-

اتمان زئی کے تاریخی جلسے کے دن صوبہ میں سرخ پوشوں یعنی خدائی خدمت گاروں کی تعداد پانچ سو تک محدود تھی-پھر جب ہم جیل خانوں سے رہا ہو کر اپنے علاقوں میں گئے تھے تو خدائی خدمت گاروں کی تعداد پچاس ہزار تک جا پہنچی تھی-ہماری اس تحریک کا حقیقت میں پروپیگنڈا انگریزوں نے خود کیا تھا-انگریز اپنی فوجیں لے کر دیہات میں چلے جاتے تھے' گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے تھے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال لیتے تھے-انہیں دھوپ میں بٹھادیتے تھے-اور انہیں کہتے تھے-"شاباش!! انگوٹھے کے نشان لگادو کہ تم خدائی خدمت گار نہیں ہو-"

لوگ کہتے رہ جاتے کہ ہم تو واقعی خدائی خدمت گار نہیں ہیں اور در حقیقت وہ خدائی

Marfat.com

خدمت گار ہوتے بھی نہیں تھے' لیکن یہ فرنگی انہیں کہتے کہ بس انگوٹھا لگادو' لیکن وہ انگوٹھا نہیں لگاتے تھے۔ انگریزوں کے اس سلوک کا ملک بھر میں عورتوں' مردوں پر ایسا اثر ہوا کہ اگر کسی نے انگوٹھا لگایا ہوتا تھا تو عورت' مرد اسے ہتک آمیز نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے انگوٹھا لگادیا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی کپڑے دھو رہی تھی۔ کپڑے دھونے والا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا۔ "تم کس طرح گھر آگئے ہو؟"

اس نے بیوی کو جواب دیا۔ "مجھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔"

عورت نے پھر پوچھا۔ "اور لوگوں کو تو چھوڑا نہیں تمہیں کیسے چھوڑ دیا ہے! تم ذرا مجھے اپنا یہ انگوٹھا تو دکھاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے انگوٹھا لگادیا ہے"

یہ کہہ کر اس عورت نے وہی کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھالیا اور اپنے مرد کو آگے لگالیا اور اسے کہا۔ "اچھا بے غیرت انسان! تم نے تو انگوٹھا لگادیا ہے اب میں جاتی ہوں۔"

بیوی کی اس پھٹکار نے اس مرد کے ہوش ٹھکانے لگادئے۔ وہ آدمی موقع پر چلا گیا اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ قطار میں بیٹھ گیا۔

انگریز نے اسے پہچان کر پوچھا۔ "ارے تم پھر کیوں آگئے؟"

اس نے جواب میں کہا۔ "صاحب! میری عورت مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیتی۔"

ایک اور اسی قسم کا واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں کے حاجی شاہنواز خاں نے جو ہمارے ساتھ جیل خانے میں قید تھے' ضمانت داخل کر دی تھی اور رہا ہو گئے تھے لیکن جونہی گاؤں میں گھر پہنچے تو لوگوں کے طعن و تشنیع سے اتنے شرمندہ اور نادم ہوئے کہ ان کے لئے زندگی بوجھ بن گئی اور انہوں نے خودکشی کر کے امان پائی۔

Marfat.com

Marfat.com

مسلم لیگ سے رابطہ اور ناکامی

ہمارے جو ساتھی ہماری ملاقات کو آئے تھے' ان کے ذریعے ہمیں اپنے صوبے کے حالات سے آگاہی ہو گئی۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے یہ ساتھی واپس اپنے گاؤں میں نہ جائیں' بلکہ یہ لاہور' دہلی اور شملے چلے جائیں اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو مسلم لیگ میں ہیں' اپنے حال سے آگاہ کر دیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہماری امداد کریں اور نہیں تو کم از کم دنیا کو ہمارے حالات سے تو باخبر کر دیں ہمارے ساتھی چلے گئے اور دو مہینے کے بعد واپس پھر گجرات آئے اور جیل میں ہم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ہندوستان بھر میں مسلم لیگ کے لیڈروں کے پیچھے بہت گھومتے پھرتے رہے لیکن مسلم لیگی لیڈر ہماری امداد کے لئے تیار نہ ہوئے۔ کیونکہ ہماری لڑائی انگریزوں سے تھی اور وہ انگریزوں کے ساتھ لوہا لینے کے قابل نہ تھے۔ انہیں تو انگریزوں نے ہندوؤں سے لڑانے بھڑانے کے لئے محفوظ رکھا ہوا تھا۔

Marfat.com

Marfat.com

کانگرس کے ساتھ الحاق

اس وقت تک ہم کانگریس میں نہیں تھے اور نہ ہی ہماری کانگریس سے کسی قسم کی جان پہچان تھی۔ ایک آدمی جو دریا میں ڈوب رہا ہو' بہا جا رہا ہو' وہ تو ہر ایک بوٹے پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ ہم جب مسلم لیگ سے مایوس ہو گئے تو ہم نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور کانگریس کے رہنماؤں سے ملو۔ اگر وہ ہماری مدد کریں تو یہ ہم پر ان کا بڑا احسان ہو گا۔ وہ چلے گئے' کانگریسی رہنماؤں سے ملے۔ کانگریسی رہنماؤں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں شریک ہونا منظور کر لیں تو وہ ہماری ہر طرح سے امداد کرنے کے لئے تیار ہیں۔

کانگریسی رہنماؤں کا یہ پیغام لے کر ہمارے ساتھی پھر آکر ہمیں ملے اور ہمیں کانگریس کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب ہم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے صوبے میں جائیں۔ یہ معاملہ صوبے کے خدائی خدمت گاروں کے جرگے میں پیش کریں۔ وہ چلے گئے۔ انہوں نے جرگہ بلا لیا۔ اور جرگے کے سامنے یہ سب باتیں رکھ دیں۔ اہل جرگہ نے کانگریس کی بات قبول کر لی اور فیصلہ کیا کہ اگر کانگریس کے رہنما ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کانگریس میں شرکت کا اعلان کر دیا۔

انگریزوں کو یہ خبر ملی کہ ہم پٹھان لوگ بحیثیت مجموعی کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بے وقوفی محسوس کی اور ایسا ہوش ٹھکانے آیا کہ انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا۔ "آؤ ہمارے ساتھ صلح کر لو' جو اصلاحات ہم نے ہندوستان کو دی ہیں فی الحال وہ تم لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں اور آئندہ جو کچھ ہندوستان کو دیں گے تمہیں اس سے بھی زیادہ دیں گے' لیکن اس شرط پر کہ تم لوگ کانگریس کو چھوڑ دو۔"

Marfat.com

انگریز کا یہ پیغام پاکر ہم نے ان سب سیاسی ساتھیوں کو' جن میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے' جمع کیا اور میں نے ان کے سامنے انگریز کی پیشکش کا سارا معاملہ بیان کر دیا اور ان سے پوچھا کہ اس معاملے میں ان کی کیا رائے ہے؟- ان میں سے اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ اس موقع سے استفادہ کر لینا چاہئے- اور ڈپلومیسی سے کام لینا چاہئے- انہوں نے کہا- ہم یہ شرط منظور کر لیں گے- لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ پیشکش منظور نہیں کیونکہ فرنگی بہت قابل اعتبار قوم نہیں ہے- ہم نے کانگریس سے وعدہ کر رکھا ہے- ہم اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے- چنانچہ حکومت کو میں نے جواب دے دیا کہ چونکہ تم نے ہم پر اعتبار نہیں کیا ہے' اس لئے ہم بھی تم پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں-

کانگریس کے ساتھ ہمارا الحاق ہو جانے سے مرکزی اسمبلی کے اسپیکر جناب وٹھل بھائی پٹیل کی رہنمائی میں کانگریس نے صوبہ سرحد کے واقعات کی تحقیقات کے لئے ایک کمیٹی بھیجی- وہ کمیٹی جب اٹک کے پل پر پہنچی تو اسے حکومت نے وہیں روک لیا اور کمیٹی کو سرحد میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی- کمیٹی کے لوگ واپس چلے گئے- وہ راولپنڈی جاکر بیٹھ گئے- مظالم کی ایک بہت طویل داستان قلم بند کر لی- ہندوستان بھر میں کانگریس کے اثر رسوخ کے ماتحت جو اخبارات تھے ان سب نے صوبہ سرحد میں توڑے گئے مظالم کی داستانیں لکھنی شروع کر دیں اور ہمارا خوب پروپیگنڈا کیا- اس رپورٹ کو تو انگریز حکومت نے ضبط کر لیا لیکن کانگریس نے اس رپورٹ کے نسخے بڑی بھاری تعداد میں امریکہ اور انگلستان بھیج دئے تھے اور وہاں لوگوں میں تقسیم کرا دئے تھے- قصہ خوانی بازار پشاور کی فائرنگ کے بعد مئی کے مہینے میں مردان ضلع کے ٹکر نامی گاؤں میں خدائی خدمت گاروں پر دوبارہ ایک اور فائرنگ ہوئی نتیجے کے طور پر بہت لوگ اس فائرنگ میں شہید ہوئے- حکومت نے خدائی خدمت گار رہنماؤں کے حجرے جلا دئے- ان میں خان غلام محمد خاں آف لوند خوڑ کا حجرہ ویلج کلب بھی شامل تھا- اور بہت سے گھروں کو بھی جلا کر خاکستر کیا گیا----- اور بے شمار لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا- اس کے بعد ضلع بنوں کے ہاتھی خیل وزیروں کے ایک پرامن جلسے پر فوج نے جاکر گولیاں برسائی تھیں کئی لوگوں کو شہید کر دیا تھا اور جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں چودہ چودہ سال قید کی سزا دی گئی تھی- اس کے بعد بنوں شہر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا اور شہر کے دروازے بند کر دئے گئے تھے تاکہ شہر سے کوئی شخص اپنی

Marfat.com

ضروریات حاصل کرنے کے لئے باہر نہ جانے پائے۔ بنوں شہر کے رہنے والوں کی زندگی کا انحصار بھی دیگر شہروں کے مانند دیہاتوں سے سپلائی پر تھا۔ اسی لئے ڈپٹی کمشنر نے شہریوں پر اس کے دروازے بند کر دئے تھے تاکہ یہ لوگ بھوک پیاس سے اپنے مال مویشی سمیت مر جائیں۔ اس کا خیال تھا کہ ان حالات میں لوگ خود بخود کانگریس کی تحریک اور خدائی خدمت گاری سے باز آجائیں گے۔ ادھر دیہاتوں میں بھی لوگ ڈر جائیں گے۔

یہاں پر یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ بنوں شہر اور دیہات میں خدائی خدمتگار تحریک بڑے جوش و خروش سے چل رہی تھی۔ ملک اکبر علی خاں کو خدا بخشے اس نے اس موقع پر اسی نالے کے ذریعے جو باہر کے دیہات سے داخل ہو کر شہر میں بہتا تھا۔ شہر کے لوگوں کی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ان کے مویشیوں کے لئے گھاس کے انباروں کے انبار سپلائی کئے اور ان کی حفاظت کے انتظام بھی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنوں کے لوگوں کو چنداں تکلیف نہ پہنچی اور انسانی زندگیوں کے علاوہ جانور بھی ضائع ہونے سے بچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر کا تباہ کن و غیر انسانی منصوبہ ملک صاحب مرحوم نے شرمندہ تکمیل نہ ہونے دیا۔ لہٰذا مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔

Marfat.com

Marfat.com

رب نواز خان کی بہن کی بہادری کا قصہ

گاندھی ارون پیکٹ ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں اتمان زئی میں جلسے پر حکومت نے فائرنگ کر دی۔ قصہ یوں ہوا کہ ہمارے گاؤں میں خدائی خدمت گاروں کا جلسہ ہو رہا تھا فوج نے آکر چاروں طرف سے جلسہ گاہ کو گھیر لیا اور لوگوں سے کہا کہ منتشر ہو جائیں۔ لوگ منتشر نہیں ہوتے تھے۔ تب ان پر گولی چلا دی گئی۔ کچھ لوگ گولیاں کھا کر شہید ہو گئے۔ لیکن اتنے ظلم و ستم کے باوجود انگریز ہمارے جلسے بند نہ کر سکے اور جب جلسے ہوتے تھے تو فوجوں اور رسالوں کے ذریعے منتشر کئے جاتے تھے۔ خدائی خدمت گار کہتے تھے کہ ان فوجیوں میں سکھوں اور آفریدیوں کی ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی رہا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے بھائی بنگش اور خٹک ہم پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا کرتے تھے بلکہ ہمیں بڑی بیدردی سے زدوکوب کرتے تھے۔ اتمان زئی کے جلسے میں فائرنگ کے وقت گولیوں کی بوچھاڑ اتنی سخت تھی کہ آخر نہتے پرامن لوگ مجبور ہو گئے کہ جلسے کی جگہ کو چھوڑ دیں اور منتشر ہو جائیں۔

یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ کہ جلسے کی رونق دیکھنے کے لئے بہت سی عورتیں اور لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ ان میں رب نواز خان کی ایک جواں سال بہن بھی تھی۔ وہ بجائے اس کے کہ فائرنگ کی وجہ سے جلسہ گاہ سے دور بھاگ جاتی الٹا اس محشر خیز میدان کی طرف جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی دوڑ پڑی۔

جلسے سے بھاگنے والے لوگوں نے اسے آوازیں دیں۔ "اے بہن! کہاں جا رہی ہو۔ خدا کے واسطے دیکھو تو سہی' یہ کیا حال ہو رہا ہے۔ رک جاؤ بہن! ادھر تو قیامت بپا ہے' خدا را کیا کرتی ہو رکتی کیوں نہیں؟"

رب نواز خان کی بہن نے گرج کر جواب دیا "اسی لئے تو نہیں رکتی میں ادھر جانے

Marfat.com

ہے کہ تم لوگ ادھر سے بھاگے چلے آرہے ہو۔ مجھے جانے دو تاکہ میں گولی کو سینے پر کھالوں۔ اور فرنگی کو یہ کہنے کا موقع نہ دوں کہ پٹھانوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں رہا' جو اپنے عقیدے کی خاطر موت کو للکار سکے۔"

اس لڑکی کی غیرت بھری باتوں اور کردار نے لوگوں پر ایسا زبردست اثر کیا کہ تمام لوگ واپس پھر جلسہ گاہ کی طرف لوٹ پڑے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف آرہے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ ادھر کیوں جارہے ہیں؟

لوگوں نے جواب دیا۔ "ہم اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تم لوگ انہیں تلف نہ کردو۔"

یہ لوگ اتنی بھاری تعداد میں جمع ہو گئے کہ انہوں نے انگریزی فوج کو اپنے گھیرے میں لے کر انہیں ایسا خوفزدہ کر دیا کہ جلسہ گاہ سے چلے جانے کے لئے فوج کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ انہیں فوج کی تلاشی لینے کی اجازت ہو تاکہ وہ تلاشی لے کر اپنی تسلی کرلیں کہ فوج ان کے کسی شہید کی لاش اپنے ساتھ نہیں لے جارہی ہے۔ انگریزی فوج نے لوگوں کی یہ شرط مان لی۔ لوگوں نے ہر ایک سپاہی کی تلاشی لے لی۔ اگرچہ ایک طرف ان کے آدمی مارے گئے' لیکن دوسری طرف ان کو بڑی شاندار فتح نصیب ہوئی۔

ہمارے ساتھ انگریز کے اس سلوک اور رویے کی وجہ سے صرف صوبہ سرحد کے لوگ ناراض نہیں تھے بلکہ ایجنسیوں اور قبائلی علاقوں کو بھی زبردست غصہ تھا۔ چنانچہ آفریدیوں نے پشاور میں مکڑی گودام پر مسلح حملہ کر دیا۔ مہمندوں' سیالوں' اتمانخیلوں اور ملمندوں اور سالار زئیوں نے شبقدر' ڈھیری' منڈا اور دوسرے مقامات پر حملے شروع کر دیئے۔ مجاہدین نے لمکندی اور سوبان خوڑ میں اپنا مرکز قائم کر لیا تھا۔ اور مہینوں تک انگریزی فوجوں سے ان کی جنگ جاری رہی۔ قبائلیوں کے ان علاقوں پر' جہاں انگریز حکومت سے قبائلیوں کی مستقل حد بندی نہیں تھی' یا سرحد کی کوئی ایجنسی بیچ میں حائل تھی وہاں وہ جرگوں کی شکل میں انگریزوں کے پولیٹیکل ایجنٹوں کے پاس گئے اور انہیں الٹی میٹم دیئے کہ مجھے خان عبدالغفار خان کو اور ملنگ بابا گاندھی جی کو فوراً رہا کر دیا جائے' سرخپوشوں کو بھی جیل خانوں سے رہا کر دیا جائے۔ پٹھانوں پر ظلم اور زیادتیاں کرنے سے احتراز کیا جائے۔

Marfat.com

پٹھانوں کی دنیا آٹھ حصوں میں تقسیم تھی

اسی قسم کی بغاوت یا طوائف الملکی تمام قبائل میں پیدا ہو گئی اس سلسلے میں نیشنل ارکائیوز آف انڈیا کے خفیہ ریکارڈ میں واضح اور مفصل تفصیلات موجود ہیں مذکورہ بالا مطالبات کے ساتھ ساتھ قبائلیوں نے انگریزوں کی مسلح جنگ کی دھمکیاں بھی دیں۔ چنانچہ ترکلٹری قوم کا ایک بہت بڑا جرگہ جو ملمندوں سالارزئیوں اور اتمان خیلوں پر مشتمل تھا' ملاکنڈ کے پولیٹیکل ایجنٹ سے ملا۔ ان جرگوں کا آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے میرے سامنے بیان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پولیٹیکل ایجنٹ نے اس جرگے کے لئے ملاقات کے وقت چائے کا بہت اعلیٰ انتظام کیا تھا۔ جرگے والوں کے سامنے میز پر روپوں کے ڈھیر اور نوٹوں کے بنڈل لگا رکھے تھے تاکہ وہ اپنے ان مہمانوں کی عزت کر سکے اور روپوں اور دولت کا لالچ دے کر انہیں مسحور کر سکے' لیکن اس جرگے میں کسی نے چائے کا پیالہ اپنے منہ سے نہ لگایا۔ صرف یہی نہیں کہ قبائلیوں نے روپوں کے ڈھیروں اور نوٹوں کے انباروں پر نفرت و حقارت سے تھوک دیا بلکہ ان پٹھان غیور بھائیوں کا غیض و غضب اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ جب پولیٹیکل ایجنٹ نے ایک خان کے ساتھ جس کا نام بادشاہ خان تھا' ہاتھ ملانا چاہا تو بادشاہ خان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس سے کہا۔

"وہ ہاتھ جو میرے پختون بھائیوں کے خون سے رنگے گئے ہیں انہیں چھو کر میں اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔"

قبائلی سردار بادشاہ خان سالار زئی قبیلے کی ہند قوم کا چشم و چراغ تھا۔

پولیٹیکل ایجنٹ نے ان قبائلی سرداروں کی بڑی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ "مجھے آپ لوگ مہلت دیں کہ میں حکومت ہند کے سامنے آپ کا یہ قومی مطالبہ پیش کر سکوں۔" اس

Marfat.com

کے بعد وہ چلا بھی گیا، لیکن میرے لئے قبائلی بھائیوں نے جس شفقت کا اظہار فرمایا اور وطن دوستی کا جو ثبوت پیش کیا اس کی خوشگوار یاد ابھی تک میرے ذہن میں تازہ اور محفوظ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نہیں بھلاؤں گا۔

انگریزوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں اور اب پاکستان کی حکومت نے بھی ہمیں یہ اجازت کبھی نہ دی کہ ہم اپنے ان قبائلی بھائیوں، ایجنسی کے لوگوں اور ریاستوں کے بھائی بندوں سے تعلقات رکھیں اور یا ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی غمی وخوشی میں شریک ہوں۔

پشتونوں کا یہ واحد خاندان اور واحد ملک انگریزوں نے مختلف انتظامی حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ایک تو سرحد کا وہ علاقہ جس میں ہم رہتے ہیں اور اسے گورنر کا صوبہ کہا جاتا تھا۔ دوسرے ایجنسیوں کے علاقے ہوتے تھے جو پولیٹکل ایجنٹ کے براہ راست اختیار کے ماتحت ہوتے تھے۔ سوم وہ ریاستیں تھیں جن کا نظام پولیٹکل ایجنٹوں کی وساطت سے ہوتا تھا۔ چہارم آزاد قبائل تھے۔ اسی طرح بلوچستان ایک علیحدہ صوبہ تھا جو صوبہ سرحد کی طرح چار طبقوں میں بانٹا گیا تھا۔ قصہ کوتاہ یہ کہ پٹھانوں کی یہ دنیا آٹھ حصوں میں منقسم تھی، جن میں سے ایک حصہ بھی دہلی سے ارتباط اور تعلق رکھنے کا مجاز نہیں تھا اس سے انگریزوں کی غرض اور اب پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور قبیلوں میں ایک دوسرے سے جدا رکھے جاسکیں اور ہمیں ایک اپنا بھائی چارہ قائم کرنے کے لئے کھلا نہ چھوڑا جائے۔ اس ظلم نے ہمارے ملک اور ملت کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ چنگیز اور ہلاکو کی وحشت کو بھی مات کر دیا ہے۔ کیونکہ ان وحشی چنگیز اور ہلاکو نے تو چند ہزار یا لاکھ انسان ہلاک کئے تھے اور بمصداق "بلائے آمد و لے بخیر بگذشت۔" چلے گئے تھے لیکن اس پالیسی یعنی انگریزی و پاکستانی پالیسی کے ہاتھوں تو لاکھوں پختون، جو شاید ایشیا میں ایک مضبوط ملت بنتے اور انسانیت کی عظیم خدمت کرتے، تحس نحس ہو کر دنیا کی تاریخ اور صفحہ ہستی سے بتدریج فنا ہو چکے ہیں۔

میرا تمام تر مجادلہ آج اسی ظلم کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ملت نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تاریخ سے مٹائی جا رہی ہے۔ ان کا ملک چھینا جا رہا ہے اور ایک عظیم الشان و شریف النفس قوم کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ یعنی اسے محکوم کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش

Marfat.com

کی جارہی ہے-میں بلوچستان سے چترال تک پٹھانوں کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو رشتہ اتحاد میں منسلک کرنا چاہتا ہوں- تاکہ ان میں ایک بھائی چارہ پیدا ہو جائے-ان کا غم والم ایک دوسرے کا مشترکہ درد و رنج بن جائے اور انسانیت کی خدمت کے لئے یہ غیور قوم پشتون دنیا میں اپنا قومی رول ادا کر سکے-میں شاید شدید درد کے احساس کے ساتھ اس بات کی طرف اشارا کر دوں کہ ہمیں غیروں نے بہت غلط رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے-مثلاً ایک طرف تو ہم پر سب دروازے بند رکھے ہیں تاکہ کوئی ہمارے پاس نہ آسکے اور دوسری طرف ہمارے دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم وحشی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں-یہ پروپیگنڈا ہمارے قبائلی بھائیوں کے خلاف مختلف طریقوں سے اتنا زیادہ اور زور شور سے جاری ہے کہ انسان کو اس پر افسوس ہوتا ہے-مثلاً ان کی بہادری کی تعریف تو کریں گے لیکن اس بہادری کو وحشت کا رنگ دے دیں گے-ان کو آزادی سے پیار و محبت ہے اس بات کی تعریف تو کریں گے' لیکن ایسے الفاظ میں کہ شاید ان کو کوئی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ضابطے کے پابند ہیں-جب بھی ان کے دل میں آتا ہے وہ انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور جو بات انہیں پسند ہوتی ہے وہی کرتے ہیں-ان کی مہمان نوازی کی صفت تو بیان کریں گے اور بات کو جھوٹ اور مغالطے کی ایک ایسی حد تک پہنچا دیں گے ——— کہ اپنی مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھنے کے لئے ہی گویا یہ لوگ قبائلی پٹھان مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چوری بھی کریں' ڈاکے بھی ڈالیں-ایک یا دوسری حکومت سے پیسے یا رشوت لیں-یعنی یہ کہ وہ جیسے کسی بھی اخلاق کے پابند نہ ہوں اور شتر بے مہار ہوں-اسی طور طریقے سے یہ چالاک اور حکمران اقوام چاہتی ہیں کہ یہ سرحال پٹھانوں کے ایک شریف طبقے کو دنیا کے سامنے بدنما صورت میں پیش کریں-اور انہیں نہ صرف دنیا کی ہمدردی ہی سے محروم رکھیں-بلکہ خود غرض حکومت کو جواز' موقع اور بہانہ مہیا کریں کہ وہ انہیں کچل کر رکھ دے-انہیں بموں سے اڑا دے-مشین گنوں سے ان کے وجود کو چھلنی چھلنی کروا لے-ان کے گھر مٹی میں ملا دے-

یہ پشتون لوگ کئی سو سالوں سے' جو ان کی سیاہ بختی کا زمانہ تھا' بہت بری طرح سے جتلائے آلام چلے آرہے ہیں-مغلوں کے زمانے سے لے کر انگریزوں تک اور پھر انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج کی حکومت پاکستان تک سب نے ان لوگوں سے قبائلی

Marfat.com

پٹھانوں سے کیسا وحشیانہ سلوک کیا ہے - انہیں پہاڑوں کے سنگین اور سخت ترین دامنوں اور سوکھے سڑے میدانوں میں ایسے رکھا گیا ہے' یا رہنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے کہ جیسے وہ قلعے میں رکھنے کے لائق اسیر ہوں - یعنی ان کو نہ تو ان کی زمین سے کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی یہ لوگ تجارت کر سکتے ہیں - کیونکہ تجارت کے لئے تو زمانہ حال میں ذرائع آمد و رفت و مواصلات کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کسی سے کسی قسم کی صنعت و حرفت میں کبھی تربیت حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا - کیونکہ صنعت کی ترقی و تربیت کے لئے تو ایک طویل و پر امن دور کی ضرورت پڑتی ہے - جس کا کئی سو سالوں سے ان کے لئے قحط ہے - ان پر روزانہ بمباری ہوتی ہے - جنگ ہوتی ہے اور ان کا قتل عام ہوتا رہتا ہے - یہ علاقہ گویا سامراجی طاقتوں نے اپنی فوجوں کی عملی تعلیم و تربیت کے لئے ایک طرح سے میدان جنگ بنا رکھا ہے - ان لوگوں کو نہ تو کسی نے کبھی تعلیم دی ہے اور نہ ہی ان کے لئے کوئی ہسپتال قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ادنیٰ سی بیماری کا بھی علاج کرا سکیں - ریدی گل خوبصورت خودرو صحرائی پھول کی مانند یہ لوگ پیدا ہو کر پلتے ہیں اور پھر ویسے ہی جنگل اور پہاڑ میں مٹی میں مل جاتے ہیں - نہ تو انہیں روٹی میسر ہے اور نہ پانی' نہ کھیت کیاری ہے اور نہ باغ باغیچہ' نہ بازار ہیں اور نہ تجارتی منڈیاں' نہ زندگی ہے اور نہ ہی زندگی کی ضروریات و لوازمات - میں نہیں سمجھتا کہ سنگدل دنیا ان سے چاہتی کیا ہے ؟ بجائے اس کے کہ انسانیت کے ناطے ان لاکھوں خوبصورت لڑکیوں اور غیور نوجوانوں پر رحم کرے' اس نے ان کے پیچھے مردم خور لگا دئے ہیں اور اس پر ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لئے انہیں بے عزت بھی کیا جاتا ہے اور پیچھے سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں -

میری دوسری آرزو یہ ہے کہ ان شریف' بہادر' وطن دوست' غیرتی اور ننگ و ناموس کے پروانوں یعنی پٹھانوں کو غیروں کے ظلم و استبداد سے بچالوں اور ان کے لئے ایک ایسی آزاد دنیا بنادوں کہ جہاں وہ ہنستے کھیلتے ہوئے آسودہ زندگی بسر کر سکیں - میں چاہتا ہوں کہ ان کے ان ویران اور مسمار گھروں کے ڈھیلوں اور مٹی کو چوم لوں' جو وحشی انسانوں نے برباد کئے ہیں - میں چاہتا ہوں کہ ان کے گلی کوچے اور گھر در اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لے کر صاف کروں - میں چاہتا ہوں کہ ان کے خون سے لت پت کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوؤں اور پھر یہ خوبصورت انسان دنیا کے سامنے کھڑے کر دوں اور دنیا سے کہوں کہ "آؤ' اب مجھے ان سے زیادہ شریف' شائستہ اور متمدن انسان کوئی ہو تو دکھا دو -"

Marfat.com

گجرات جیل سے رہائی

خیر ذکر گاندھی ارون پیکٹ کا چل رہا تھا- جب یہ پیکٹ ہو گیا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دئے گئے - صرف ایک میں ہی رہ گیا جسے رہا نہ کیا گیا اور میں گجرات کے جیل خانے میں اکیلا رہ گیا- میں نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے پوچھا کہ -"مجھے کس لئے بند رکھا گیا ہے؟"

انہوں نے مجھے بتایا- "یہاں مسلم رہنماؤں کی ایک کمیٹی آ رہی ہے جس میں سر فضل حسین اور سر صاحبزادہ عبدالقیوم بھی شامل ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں"

میں نے سپرنٹنڈنٹ سے کہا- "میں تو ان سے نہیں ملنا چاہتا' اس لئے کہ جب ہم پر مصیبت تھی تب تو انہوں نے ہماری کوئی مدد نہ کی- اس وقت تو انہوں نے مجھے فراموش کر رکھا تھا اور اب جب مجھے راحت میسر آنے لگی ہے تو میں انہیں یاد آ گیا ہوں- آپ مہربانی فرمائیں' انہیں اطلاع دے دیں کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں- لیکن اگر وہ آ بھی گئے تو میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا-"

ادھر ہمارے لوگ پٹھان مہاتما گاندھی کے پاس گئے اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا- "جہاں سب سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے وہاں عبدالغفار خان کو رہا کرنے کا نام ہی نہیں لیا جاتا- اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ سرحد کے چیف کمشنر سر سٹورٹ پیرسن نے وائسرائے کو لکھا ہے کہ صوبہ سرحد میں ہم دو آدمی بیک وقت نہیں رہ سکتے- یا تو عبدالغفار خاں رہے گا اور یا میں رہوں گا-"

Marfat.com

یہ اطلاع پا کر مہاتما گاندھی لارڈ ارون کے پاس گئے اور ان سے کہا۔
"عبدالغفار خان کو بھی رہا کر دیجئے' کیونکہ وہ ہماری کانگریس کا ممبر ہے۔"
لارڈ ارون اچھے آدمی تھے۔انہوں نے گاندھی جی سے کہا۔"پٹھان اور عدم تشدد ناممکن۔ آپ کو چاہیے کہ صوبہ سرحد میں جائیں اور اپنی آنکھوں سے حالات کا مطالعہ کریں کہ پشتون کس حد تک عدم تشدد کے قائل ہیں۔"
یہ کہنے کے باوجود لارڈ ارون نے میری رہائی کے احکام جاری کر دئے اور میں رہا ہو گیا۔اب میں اپنے صوبے میں آیا۔یہاں کے حالات اور لوگوں کے جذبات دیکھے۔یہ بڑے سازگار تھے۔میں نے بسم اللہ کر دی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ایک منٹ بھی رائیگاں نہیں جانے دیا۔لوگوں میں ہمت و خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے جب کبھی میں تقریر کرتا تو اس بات پر بہت زور دیا کرتا کہ "فرنگی کا ایک سینگ تو ٹوٹ گیا ہے۔پختونو! اٹھو' کمر کس لو اور اس کا دوسرا سینگ بھی توڑ دو۔یہ ملک تمہارا ہے اور خدا نے تمہارے بچوں کو عطا کیا ہے۔لیکن آج تمہاری بے اتفاقی' خود غرضی کی وجہ سے انگریز تمہارے ملک کو ہڑپ کر رہے ہیں۔حالانکہ خدا کا دیا ان کا اپنا ملک بھی ہے' مگر تمہارے وطن کو بھی کھا رہے ہیں۔تمہارے بال بچے بھوکے پیاسے ہیں اور تمہارے ملک کی بدولت ان کے بچے کچھے اڑا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔"

میری تقریر کے اس جملے "فرنگی کا دوسرا سینگ بھی توڑ دو۔" نے انگریز کو سیخ پا کر دیا۔اس نے میرے ساتھیوں میں میرے خلاف پروپیگنڈا کیا۔"عبدالغفار صلح صفائی یا مفاہمت نہیں چاہتا بلکہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔اس کی باتوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم سب پر مصیبت آجائے گی۔"

انگریز نے ہمارے بعض ساتھیوں کے دماغ میں یہ بات بھی بٹھانے کی کوشش کی۔" تم لوگ بڑے قابل اور لائق ہو اور یہ عبدالغفار خاں تمہاری طرح عالم نہیں ہے۔کام تم لوگ کرتے ہو مگر نام اس کا ہوتا ہے۔"

اس قسم کے پروپیگنڈے کا اثر ہمارے بعض ساتھیوں پر ہوا بھی اور ان کے چند ایک لیڈر جمع ہوئے۔انہوں نے مردان میں ہمارے قاضی عطاء اللہ جان کے یہاں

Marfat.com

ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں مجھ سے کہا کہ ایک تو آپ اپنے یہ دورے ملتوی کر دیں اور دوسری سینگ ٹوٹ جانے کی بات مت کیجئے۔"

میں نے کہا۔"اچھا! آخر لوگوں سے کیا کہوں گا؟"

انہوں نے کہا۔"ہم نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔اب ایسی بات نہیں کہنی چاہئے۔"

میں نے انہیں کہا۔"اس سے تو ہٹھانوں میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا جو میں ان میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔"

انہوں نے پھر زور دیا کہ میں دورے کرنا بند کر دوں میں نے رائے ظاہر کی۔"یہ معاہدہ مفاہمت پائیدار نہیں ہے۔یہ جلد یا بدیر ٹوٹنے والا ہے۔خیر خدا نے ہمیں کام کرنے کے واسطے ایک اچھا وقت دیا ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔"لیکن بعض آدمیوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔وہ خود تو کام کرتے نہیں تھے اور مجھے بھی کام کرنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو وہ بھی میرے ساتھ دھر لئے جائیں گے۔اور وہ قید ہونے اور جیل جانے کے لئے تیار نہیں تھے۔

Marfat.com

Marfat.com

قاتلانہ حملہ

کراچی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس تھا۔ ہمیں اس میں شریک کرنے کے لئے دعوتیں آئی تھیں۔ اور یہ پہلی کانگریس تھی جس میں ہم شامل ہو رہے تھے۔ ہمارے ہمراہ اسی ۸۰ یا ایک سو خدائی خدمت گار، جنہوں نے خوبصورت اور پرکشش سرخ وردیاں زیب تن کی ہوئی تھیں، اپنے ساز و سامان سے لیس ہو کر کراچی کے لئے روانہ ہوئے اور بڑی دھوم دھام سے کراچی پہنچ گئے۔ راستے میں ہم نے خوب پروپیگنڈا کیا۔ جس اسٹیشن پر ریل گاڑی کھڑی ہوتی ہمارے خدائی خدمت گار اپنے ساز و سامان کے ساتھ نیچے اترتے اور اپنا پروپیگنڈہ کرتے۔

کراچی میں کانگریس نے ہمیں ایک علیحدہ کیمپ دیا۔ جو خاص طور پر ہمارے لئے ہی بنایا گیا تھا۔ ہمارے خدائی خدمت گار ڈیوٹی بڑے شوق اور بہادرانہ انداز میں دیتے تھے۔ ان کے اندر زبردست احساس ڈسپلن بھی تھا اور جلسوں میں جس جگہ ڈیوٹی دینا مشکل نظر آتا وہاں خدائی خدمت گاروں کو ڈیوٹی لگائی جاتی تھی اور وہ اپنا فرض منصبی بڑی خوبی اور شان سے ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمارے والنٹیر لوگوں میں بے حد ہر دلعزیز ہو گئے تھے۔ اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اس موقع پر گاندھی جی، جواہر لال جی اور

Marfat.com

کانگریس کے دوسرے بڑے بڑے لیڈروں سے ہماری جان پہچان ہو گئی-ان قومی رہنماؤں سے ہمیں بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا-

دہلی میں ڈاکٹر انصاری صاحب کے مکان پر ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا-میں بھی ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا اور اس جلسے میں شامل ہوا تھا-جواہر لال جی سے میری واقفیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ مجھے جانتے تھے-اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے دوست و آشنا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی طبیعتوں سے واقف تھے-جواہر لال جی نے مجھے علیحدہ کر کے کہا-"ہم پشاور کی کانگریس کمیٹی کے دفتر کو خرچ کے لئے پانچ سو ماہوار دیا کرتے ہیں اور اب آپ لوگوں کے جرگے کے دفتر کو ایک ہزار روپے ماہوار دیا کریں گے-"

میں نے انہیں کہا-"پنڈت جی! ہمیں روپوں کی ضرورت نہیں-پھر ہم آپ سے روپے کیوں لیں-کیا یہ ملک صرف آپ ہی لوگوں کا ہے ہمارا نہیں اور اس کے لئے قربانی کرنا صرف آپ ہی کا فرض ہے' ہمارا فرض نہیں؟ یہ آپ کا اور ہمارا سب کا مشترکہ ملک ہے-لہٰذا آپ اپنا بوجھ اٹھائیے اور ہم اپنا بوجھ اٹھائیں گے-اور اگر آپ لوگ ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری لڑکیوں کے لئے ایک اسکول بنوا دیجئے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی ہو-"

جواہر لال جی میری اس بات پر خفا ہو گئے اور مجھے تو کچھ نہیں کہا لیکن ڈاکٹر انصاری صاحب سے شکایت کی کہ بابا خان بہت مغرور شخص ہے-جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جواہر لال جی کو کس لئے خفا کیا ہے-میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو ان سے خفگی کی ایسی کوئی بات نہیں کہی-میں تو ایک خدائی خدمت گار ہوں اور خدائی خدمت گاری اور تکبر دو متضاد چیزیں ہیں-میں نے ڈاکٹر انصاری کو اپنی ساری بات سمجھا دی-اس کے بعد ہم اور جواہر لال جی ایک دوسرے کی طبیعتوں سے واقف ہو گئے-پھر ہم نے اپنے باہمی تعلقات میں اس قدر پریم' پیار اور محبت پیدا کر لی کہ دو بھائیوں میں بھی اتنا پریم پیار پیدا نہیں ہوا ہو گا-دراصل مجھے پیسوں کی بات بڑی مکروہ نظر آتی ہے اور میں نے اپنی ساری عمر میں کسی کے آگے پیسے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھایا-ورکنگ کمیٹی کے ممبر ریل کا کرایہ لیا کرتے تھے اور جواہر لال جی نے اس بات پر بھی مجھ سے بڑی لڑائیاں لڑیں-لیکن میں نے کرایہ کبھی نہیں لیا تھا-

Marfat.com

کراچی سے واپس آکر میں نے پھر اپنا دورہ شروع کر دیا اور جب ہم کوہاٹ پہنچے اور ضلع کوہاٹ کا دورہ شروع کر دیا تو بھرتی کرنے والے انگریزوں نے حکومت سرحد کے ذریعے وانسرائے سے میری شکایت کرتے ہوئے لکھا۔ "کوہاٹ تو ہمارا بھرتی کا ایک مرکز ہے اس لئے ہم عبدالغفار خاں کو اس ضلع میں دورے نہیں کرنے دیں گے اور اگر وہ آئے گا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔"

ان دنوں لارڈ ارون چلے گئے تھے اور ان کی جگہ لارڈ ولنگڈن آ چکے تھے۔ اب وہ ہندوستان کے وانسرائے تھے لارڈ ولنگڈن نے گاندھی جی کو لکھا کہ وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ گاندھی جی نے انہیں جواب دیا۔

"عبدالغفار خاں کو ہرگز ہرگز گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو ہمارا معاہدہ گاندھی ارون پیکٹ ٹوٹ جائے گا۔ لارڈ ارون نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سرحد جا کر پٹھانوں کے طور اطوار اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس لئے آپ مہربانی فرما کر مجھے سرحد جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں ان لوگوں کو دیکھ لوں۔"

لیکن لارڈ ولنگڈن نے مہاتما گاندھی کو سرحد جانے کی اجازت نہ دی۔ اس پر گاندھی جی نے لارڈ ولنگڈن کو لکھا کہ اگر وہ انہیں سرحد جانے کی اجازت نہیں دیتے تو پنڈت نہرو کو اجازت دیں تاکہ وہ سرحد جا کر صورت حال کا مطالعہ کریں لیکن وانسرائے نے نہرو کے لئے اجازت دینے انکار کر دیا۔ تب گاندھی جی نے اپنے بیٹے دیوداس کا نام تجویز کیا۔ تب بار بار کے اصرار سے وانسرائے نے دیوداس کو صوبہ سرحد جانے کی اجازت دیدی۔

دیوداس پشاور پہنچ گئے۔ پشاور سے ہم لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ لے کر اتمان زئی روانہ ہونا تھا۔ ہم اتمان زئی کے لئے ایک لاری میں بیٹھ گئے۔ جب یہ لاری شاہی باغ سے آگے بڑھی تو ہمارے ایک دوست کی موٹر کار پہنچ گئی۔ لاری رکوائی گئی اور ہم لوگ لاری سے نیچے اتر کر موٹر میں سوار ہو گئے۔ موٹر کی اگلی سیٹوں پر دو خدائی خدمت گار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ موٹر چلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی خوبصورت اور پرکشش سرخ وردیاں پہن رکھی تھیں اور ہماری موٹر پر جھنڈا بھی لہرا رہا تھا۔ میں، دیوداس اور خورشید بہن پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ جب ہم چارسدہ پہنچے تو ہمیں خبر ملی کہ ہماری اس لاری پر حملہ کرنے کے لئے ایک ڈاکو جو قاضی کے نام سے مشہور تھا، سردریاب کے پل کے قریبی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔

Marfat.com

جب وہ لاری پل کے قریب پہنچی تو اس ڈاکو نے اس پر گولیاں چلائیں۔اس لاری کو روک کر اس کی تلاشی لی' لیکن اسے مایوسی ہوئی۔اس سانحے میں ڈاکو کی گولی سے ایک مسافر زخمی ہو گیا۔جسے ہم نے خود چارسدہ کے ہسپتال میں زیر علاج دیکھا تھا۔اس سے بات چیت بھی کی تھی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ لاری پر ڈاکو کا حملہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تھا۔ڈاکو قاضی کو حکومت کے مشورے سے قلی خاں نے بلایا تھا اور اسے جنگل میں ہمیں مروا ڈالنے کے لئے ہی بٹھار کھا تھا۔ہم پشاور سے تو اسی لاری میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تھے حکومت نے ناکی تھانے کے ذریعے اس ڈاکو کو خبر دی تھی کہ اس لاری میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔یہ تو خدا کا فضل تھا کہ اتفاقاً ہمیں راستے میں اپنے ایک دوست کی کار مل گئی اور ہم لاری سے اتر کر موٹر میں سوار ہو گئے لیکن اس ڈاکو کو تو یہ اطلاع نہیں مل سکی تھی ہم اس لاری سے راستے میں اتر گئے ہیں۔یہی وجہ تھی کہ سرکار کی یہ سازش یکسر ناکام ہو گئی۔لیکن اس سازش کی ناکامی سے سارا راز عوام پر عیاں ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا' جیسا کہ میں نے بعد میں سنا تھا کہ وہ ڈاکو قاضی جب آفریدیوں میں پہنچا تو آفریدیوں نے اسے محض اس وجہ سے قتل کر ڈالا کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے ہمیں قتل کرنے کی مذموم کوشش کی تھی۔ آفریدیوں کے نزدیک قاضی کی یہ حرکت پشتو پولی بٹھانی روایات کے سراسر خلاف تھی۔ان کو غصہ تھا کہ اگر اس سانحے میں مہاتما گاندھی کے فرزند کا قتل ہو جاتا تو اس سے پشتونوں کی بدنامی ہندوستان بھر میں ہوتی' جو انہیں برداشت نہیں تھی۔خیر ہم بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچے اور اس کے بعد دیوداس نے ہمارے سارے علاقے کا دورہ کیا اور ہم نے انہیں سب کچھ دکھایا اور وہ سمجھ گئے کہ قومی کام کرنے کی وجہ سے ہی انگریز ہم سے ناراض اور مغلوب الغضب تھے۔

اس زمانے میں ہمارے صوبے میں مسلم لیگ کا وجود نہیں تھا۔انگریزیوں کو ہماری جماعت کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک پارٹی کی ضرورت تھی۔چنانچہ ہمارے مقابلے کے لئے انگریزوں نے خاکسار پارٹی قائم کر دی۔اس وقت عنایت اللہ خاں مشرقی پشاور کے گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔گورنمنٹ نے انہیں اعتماد میں لے لیا اور اسی کے ذریعے انگریزوں نے ہماری جماعت کے مقابلے کے لئے خاکسار تحریک جاری کی لیکن

Marfat.com

خدائی خدمت گار تحریک ملک میں بہت ہر دلعزیز تھی' اس لئے خاکسار تحریک صوبہ سرحد میں ترقی نہ کر سکی- لیکن ہندوستان کے دیگر حصوں میں جلدی پھیل گئی- بعد میں عنایت اللہ خان مشرقی کی کمزوری اور لکھنؤ میں معافی مانگنے کی وجہ سے یہ تحریک ختم ہو گئی- اسی طرح اور تحریکیں بھی ہمارے صوبے میں جاری ہوئیں تھیں لیکن خدائی خدمت گار تحریک کا مقابلہ کوئی دوسری تحریک نہ کر سکی اور وہ اپنی موت آپ مر گئیں-

حقیقت یہ تھی کہ ایک طرف تو ہم اپنے صوبے میں خوب کام کرتے تھے اور دوسری طرف خدائی خدمت گار تحریک صوبہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جاتی تھی- صرف کوہاٹ کے ضلع میں ہمارے خدائی خدمت گاروں کی تعداد ایک لاکھ تھی- انگریز اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس فکر میں تھے کہ مجھے گرفتار کر لیں- میں پورے زور سے اس لئے کام کر رہا تھا کہ مجھے علم تھا کہ میں کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جاؤں گا' کیونکہ انگریز کوشش کر رہے تھے کہ وہ گاندھی جی کو میری گرفتاری کے لئے رضامند کر لیں لیکن گاندھی جی ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے- اس معاملے کو لے کر گاندھی جی اور وائسرائے ہند کے مابین کشمکش جاری تھی- گاندھی جی بے حد مجبور ہو گئے اور انہوں نے میرے پاس ایک آدمی بھیج دیا کہ میں ان کے گاندھی جی پاس چلا جاؤں-

Marfat.com

Marfat.com

گاندھی جی سے ملاقات

ان دنوں گاندھی جی باردولی میں تھے۔ میں باردولی روانہ ہو گیا۔ راستے میں بھوپال کے ریلوے اسٹیشن پر محمد علی صاحب کے داماد شعیب قریشی نے دیکھ لیا۔ یہ ہمارے ساتھ خلافت میں کام کرتے تھے۔ اس وقت وہ بھوپال کے نواب کے ساتھ تھے۔ شعیب نے مجھے وہاں اترنے پر مجبور کیا اور میں ایک رات کے لئے بھوپال میں ٹھہر گیا۔ رات کو انہوں نے مجھے نواب بھوپال کا مہمان بنا دیا۔ شوکت علی صاحب بھی انہی کے مہمان تھے۔ نواب صاحب نے تنہائی میں میرے ساتھ طویل گفت و شنید کی اور آخر میں مجھے یہ کہا کہ اگر میری مرضی ہو تو وہ دونوں وائسرائے کے پاس چلے جائیں گے ان کے ساتھ ملاقات کر لیں گے۔ اور نواب صاحب نے یہ قوی امید ظاہر کی کہ میں جو کچھ بھی پشتونوں کے لئے مانگوں گا وائسرائے صاحب ضرور دے دیں گے' لیکن میں نے وائسرائے کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور میں نے نواب صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے اتنا یقین ان پر نہیں ہے اور دوسرے اس وقت میں باردولی جا رہا ہوں۔

جب باردولی پہنچ گیا تو مہاتما جی سے میں نے گفت و شنید کر لی اور میں نے انہیں کہہ دیا "یہ سب بہانے و حیلہ سازیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت مجھے کام نہیں کرنے دینی اور اچھا ہے کہ آپ (گاندھی جی) وائسرائے ہند کو لکھ دیں کہ جن لوگوں نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں ان کو وائسرائے ہند بلائیں۔ وہ لوگ' وائسرائے اور آپ (گاندھی جی) کے سامنے میرے خلاف الزامات کے ثبوت پیش کریں۔ آپ دونوں جج بن جائیں اور اگر میرے خلاف ثبوت مل جائے یعنی الزامات ثابت ہو جائیں تو آپ دونوں مجھے جو سزا دیں گے وہ مجھے سر و چشم منظور ہو گی۔

Marfat.com

گاندھی جی نے وائسرائے کو میری یہ تجویز لکھ دی اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ لکھی کہ اگر وائسرائے صاحب انہیں اجازت دیں تو وہ خود سرحد جاکر اپنی آنکھوں سے تمام حالات و واقعات دیکھ لیں گے۔ اگر وائسرائے صاحب چاہیں کہ وہ گاندھی جی مجھے ساتھ لے کر وائسرائے کے پاس شملہ پہنچ جائیں تو ایسا کیا جائے۔

یہ گرمی کا موسم تھا اور ان دنوں وائسرائے شملہ میں تھے۔ کچھ دن مجھے گاندھی جی نے وائسرائے کے جواب کے لئے ٹھہرائے رکھا کہ اسی اثناء میں وائسرائے کی طرف سے جواب یہ ملا کہ مہاتما گاندھی کو مجھے ساتھ لے کر شملہ آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی موجودہ وقت میں گاندھی جی کا سرحد جانا وائسرائے مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ جواب ملنے پر مہاتما جی مان گئے کہ واقعی میری بات سچی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ اب میں جاکر اپنا کام کر سکتا ہوں۔

شملہ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی میں بھی اس کے لئے گیا تھا۔ دو خدائی خدمت گار بھی میرے ہمراہ تھے۔ گاندھی جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لئے لندن جا رہے تھے۔ اس کے بارے میں کچھ صلاح و مشورہ کرنا تھا۔ گاندھی جی چلے گئے۔ اور ہم لوگ شملہ میں ٹھہر گئے۔ ہمارے ساتھ اسلامیہ کالج کا ایک نوجوان تھا جس کا باپ انٹیلی جنس ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا افسر تھا۔ اس نے مجھے سیسل ہوٹل شملہ میں اپنا مہمان بنایا اور میرے ساتھ فیروز خان نون اور پنجاب کے چند معززین بھی کھانے پر بلا لئے۔ جب ہم کھانے کے لئے ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہے تھے تو میرے ساتھ خدائی خدمت گار بھی تھے۔ وہ بہت خوش شکل نوجوان تھے۔ انہوں نے پرکشش سرخ وردیاں پہن رکھی تھیں۔ چاروں طرف بہت سے انگریز اور میمیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہمارے سرخ پوشوں کو جو دیکھا تو انہیں پر اشتیاق نگاہوں سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب ہم نے کھانا کھالیا تو فیروز خان نون نے ہم سے شکوہ کیا کہ "آپ پٹھان لوگ کانگریس کے ساتھی ہو گئے ہیں اور ہمیں بڑا بھاری نقصان پہنچایا ہے۔"

میں نے ان سے کہا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو پہلے آپ ہی کے پاس آئے تھے جب آپ نے ہمیں صاف جواب دے دیا تو اس کے بعد ہم لوگ کانگریس کے پاس گئے۔ ہم لوگ انگریزوں کی غلامی سے تنگ آچکے ہیں اور آزادی کے خواہاں ہیں اور اگر آپ لوگ بھی آزادی کے طالب ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

Marfat.com

فیروز خاں نون نے کہا کہ بہت اچھا ہم آپس میں صلاح و مشورہ کر کے آپ کو اطلاع دے دیں گے' لیکن فیروز خاں نون جب سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر ۱۹۴۶ء میں پٹنہ کے مقام پر ہی کھائی دئے یعنی بہار کے فسادات میں۔

خیر میں شملہ میں تھا۔ ہندوستان کے خارجہ محکمہ کے سیکرٹری ہاول صاحب نے مجھے خط لکھا کہ "اگر آپ مجھ سے ملنے کی تکلیف کر سکیں تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہو گی۔"

میں نے اسے جواباً لکھا۔ "افسوس کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا۔"

اس نے پھر گاندھی جی سے کہا اور گاندھی جی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ہاول صاحب کی ملاقات سے کیوں انکار کیا ہے؟ میں نے گاندھی جی سے کہا کہ میں ایک کمزور انسان ہوں پھسلن پر پاؤں نہیں رکھتا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پھسل جاؤں۔

مہاتما جی بڑے ہنسے اور مجھے کہا۔ "کیا میں انگریزوں سے ملاقات اور گفت و شنید نہیں کرتا؟"

میں نے ان سے کہا۔ "آپ تو مہاتما ہیں۔"

قصہ کوتاہ یہ کہ مہاتما جی نے مجھے مجبور کر دیا اور ان کی دل جوئی کے لئے میں ہاول صاحب سے ملنے چلا گیا۔ ہاول صاحب ہمارے صوبہ سرحد میں رہ چکے تھے۔ وہ بڑے با اخلاق اور شریف انسان تھے۔ اور ویلی صاحب جو ڈپٹی فارن سیکرٹری تھے مجھ سے خوب واقف تھے جب ہم لوگ باتیں کرنے بیٹھ گئے تو ہاول صاحب نے مجھ سے گلہ کیا اور کہا۔ "ہمارے اور پختونوں کے بہت اچھے تعلقات تھے لیکن پشتونوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ان کی شعلہ بار تقریروں کی وجہ سے ہمارے اور پٹھانوں کے تعلقات خراب ہو گئے۔"

میں نے ان سے کہا۔ "شعلہ بار تقریریں کسی کے تعلقات خراب نہیں کرتیں۔ آپ انہی ویلی صاحب سے دریافت کیجئے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟" اس کے ساتھ ہی ویلی صاحب سے میں نے کہا۔ "جوان! تم بات نہیں کرتے' چپ کیوں ہو' تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے' تم تو ان دنوں پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے اور ہمیں تو کانگریس سے تمہیں لوگوں نے ملایا ہے۔"

ہم نے ابھی اپنی باتیں ختم نہیں کی تھیں کہ ٹیلی فون آگیا اور ہاول صاحب نے مجھے بتایا کہ "یہ ہوم سیکرٹری ایمرسن صاحب کا ٹیلی فون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے مل لیں۔"

Marfat.com

میں نے ہلول صاحب سے کہا کہ "انہوں نے میرے ساتھ وقت مقرر نہیں کیا میں ان سے نہیں مل سکتا۔"

ہلول نے پھر انہیں ٹیلی فون کے ذریعے کہا۔ 'مہربانی کر کے عبدالغفار خاں سے کہئے کہ وہ ایک لمحے کے لئے آپ سے آکر ملیں۔

ہلول صاحب نے مجھے بتایا کہ اسی راستے میں ایمرسن صاحب کا دفتر ہے اچھا یہ ہو گا کہ چند ایک منٹوں کے لئے ان سے ملتا جاؤں۔

میں ان ہلول اور ویلی سے رخصت ہوا اور راستے میں ایمرسن کے پاس چلا گیا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ انہوں نے چھوٹتے ہی مجھ سے پر رعب دارانداز میں کہا۔ "دیکھو، تم نے میرٹھ میں تقریر کی اور اس میں تم نے یہ کہا کہ فرنگی انگریز کا چہرہ تو سفید ہے مگر اس کا دل کالا ہے۔ اور اگر تمہاری یہ تقریریں آج میں لندن میں شائع کر دوں تو پھر امید نہیں ہے کہ انگریز تمہیں مراعات دے اور اصلاحات فراواں کرے۔"

میں نے اسے کہا۔ "میں نے صرف اتنی ہی بات نہیں کہی اور بھی بہت کچھ کہا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری وہ تمام تقریر اخبارات میں شائع کرا دیں۔ میں نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے فرنگیوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اور ہم تو ان پر عاشق تھے۔ جب ہم کہیں سے اچھی چیز حاصل کر لیتے تھے تو اسے خود نہیں کھاتے تھے۔ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے تھے بلکہ اسے ان کے پاس لے جاتے تھے کہ وہ فرنگی یعنی انگریز ہم سے خوش ہو جائیں، لیکن ہم انہیں خوش نہیں کر سکے اور وہ اصلاحات جو ہندوستان منظور نہیں کرتا تھا انہوں نے ہمیں وہ بھی فراواں نہیں کیں۔ اسی لئے میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چہرے تو سفید ہیں لیکن ان کے دل بڑے میلے ہیں۔"

ایمرسن صاحب کی باتیں ایسی نہیں تھیں جیسی کہ ہلول صاحب کی تھیں، کیونکہ ایمرسن کی ساری عمر پنجاب میں گذری تھی۔

شملہ میں "سول اینڈ ملٹری گزٹ" اخبار کا ایک نامہ نگار تھا۔ اور اس کا ایک ساتھی تھا وہ میرے پاس اکثر آتے جاتے تھے۔ میری اور وائسرائے کی ملاقات کے بارے میں انہوں نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں اور نامہ نگار نے ایک غلط خبر اپنے اخبار میں شائع کی

Marfat.com

تھی کہ "سرحد کی تحقیقات کے بارے میں ورکنگ کمیٹی نے عبدالغفار خاں کی باتیں نہیں مانی ہیں اس لئے عبدالغفار خاں استعفیٰ دے دیں گے۔" اس خبر نے پنجاب اور صوبہ سرحد میں ایک بہت بڑا ہنگامہ بپا کیا تھا۔ میں جب لاہور پہنچا تو سر صاحبزادہ عبدالقیوم کا ایک آدمی میرے پاس آیا۔ یہ آدمی خاص طور پر صوبہ سرحد سے میرے لئے آیا تھا اور اس نے مجھے کہا ۔"مجھے صاحبزادہ صاحب نے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ سے انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے کہیں کانگریس کو نہ چھوڑیے گا اور اگر آپ کانگریس سے علیحدہ ہو گئے تو پھر انگریز ہمیں کچھ بھی نہ دیں گے۔"

Marfat.com

Marfat.com

سر ریلف گرفتھ سے ملاقات

میں شملہ سے واپس آیا تو ہمارے بعض ساتھیوں کے دلوں میں انگریزوں نے خوف اور خفگی پیدا کر رکھی تھی اور انہوں نے چھپ چھپ کر میری مخالفت شروع کر رکھی تھی۔ ہمارے بعض ساتھی یہ بات تحریک کے لئے اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہماری اصلاح کے لئے کوشش کی اور ایسے ساتھیوں نے ہمیں میاں جعفر شاہ کے یہاں اکٹھا کیا اور بہت سی باتوں کے علاوہ میرے مخالفین یہ بات بھی کہتے تھے۔ "ہمارا ہندوؤں پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہماری حق تلفی کر دیں۔ ہمیں اس بارے میں ایک ایسی قرارداد منظور کرنی چاہئے۔"

میں نے انہیں کہا۔ "ابھی تک ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی بے اعتباری کی بات نہیں کی ہے۔ ایسے وقت میں اس قسم کے مسئلے ہمیں نہیں چھیڑنے چاہئیں۔ اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کیا تو پھر ہمیں کسی نے باندھ تو نہیں رکھا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا تو آپ سب سے آگے ہو جانا اور ہم سب خدائی خدمت گار آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔" قصہ کوتاہ یہ کہ ہمارے تمام اختلافات کا فیصلہ ہو گیا۔

سر ریلیف گرفتھ ان دنوں صوبہ سرحد کے چیف کمشنر تھے۔ وہ صوبے میں ایک دربار منعقد کرنا چاہتے تھے۔ سر گرفتھ نے مجھے بھی دعوت شمولیت دی۔ لیکن میں نے وہ نامنظور کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے لئے ایک حکم بھیج دیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں نے یہ حکم بھی نہ مانا اور ان سے ملاقات کرنے کو نہیں گیا۔ اس پر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے میرے پیچھے پولیس کو بھیج دیا۔ چنانچہ پولیس مجھے چیف کمشنر کے پاس لے گئی

Marfat.com

ان سے ملاقات کے دوران ان خطرات کا ذکر آیا جو بقول چیف کمشنر گرفتھ ملک کو پیش تھے
-چیف کمشنر نے کہا- "ہمیں تین خطرات کا سامنا ہے- ایک قبائل' دوسرا افغانستان اور
تیسرا روس-"

میں نے ان سے کہا کہ "اگر آپ لوگوں کو واقعی قبائل سے خطرہ ہے اور چاہتے ہیں کہ
ان کی اصلاح ہو تو ہم حاضر ہیں کہ آپ سے تعاون اور امداد کریں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ
لوگ اپنی موجودہ قبائلی پالیسی ترک کر دیں اور انہیں دشمن کی نگاہ سے نہیں بلکہ دوست کی
نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اور ایک ایسے پروگرام کو قبائیلوں میں ہماری مدد اور تعاون سے
عملی شکل دیں کہ جس سے قبائیلوں کو فائدہ پہنچے-"

گرفتھ صاحب نے پنسل اور کاغذ لے لیا- نوٹ لینے شروع کر دیئے اور میں جو کچھ بھی
کہتا تھا اسے وہ لکھتے جاتے تھے- میں نے ان سے کہا- "آپ لوگ قبائیلوں کی تباہی اور قتل
مقاتلے پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے آدھے خرچ سے ان کے لئے گھریلو صنعتیں قائم کر
دینا چاہئیں تاکہ وہ اپنے لئے آزاد اور باعزت روزی کما سکیں اور وہ صنعت و حرفت اور
تجارت سے آشنا ہو جائیں اور قبائیلوں میں ان کے بچوں کی تعلیم کے لئے مدرسے قائم کر
دیئے جائیں' تاکہ ان کی اولاد نئی زندگی کی اہلیت اور قابلیت اپنے اندر پیدا کر لے- ان کے
لئے ہسپتال بھی بنا دیے جانے چاہئیں تاکہ ان کا علاج معالجہ ہو سکے- اسی طرح یہ غیرت مند
پٹھان پشتون قوم کے کار آمد افراد اور مفید شہری بن جائیں گے-"

افغانستان سے خطرے کے بارے میں میں نے گرفتھ صاحب سے کہا- "افغانستان
سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں' کیونکہ ایک تو افغانستان کی حکومتیں ہمیشہ آپ کی دوست ہوتی
ہیں' حتیٰ کہ جو حکومت آپ کو ناپسند ہوتی ہے وہ حکومت قائم ہی نہیں رہ سکتی اور دوسری
بات یہ ہے کہ ہم پٹھان لوگ آپ کے دوست ہیں- وہ بھی آخر ہمارے بھائی اور عزیز ہیں-
وہ بھی خواہ مخواہ آپ کے دوست بنے رہیں گے- رہ گیا روس سے خطرے کا سوال
---------- اس خطرے کے مقابلے کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیا جائے
تاکہ یہ ملک ہمارا ہو جائے- تو ہم ایک بڑی قوم ہیں' جو دریائے آمو سے لے کر آدھے
پنجاب تک پھیلے ہوئے ہیں- ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا- اور اگر کسی کے سینگ میں خواہ
مخواہ خارش ہونے لگے گی تو ہم اس کی خارش کا علاج کرتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کے

Marfat.com

لئے اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے۔

گرفتھ صاحب نے یہ سب باتیں لکھ لیں اور مجھے کہہ دیا۔ "میں دہلی جا رہا ہوں تاکہ وائسرائے سے یہ باتیں کروں۔" گرفتھ صاحب کی شکل و صورت اور پیشانی سے معلوم ہوتا تھا کہ ہماری باتوں سے وہ متفق ہیں۔ گرفتھ صاحب نے مجھ سے کہا۔ "اچھا پھر بھی تو کبھی کبھی مجھے ملا کرو گے؟"

میں ان کے سامنے ہنس پڑا اور کہا۔ "ہاں، لیکن اس طریقے سے جیسے کا آج آپ نے میرے ساتھ برتاہے۔ یعنی پولیس کے ذریعے۔"

انہوں نے کہا۔ "دیکھو، یہ اتنے لوگ میری ملاقات کے لئے آرزو مند ہیں اور کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں اور ان میں ذرا باہر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے خان بہادروں اور خواتین کو تو دیکھو جو اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے نہیں ملتا ہوں اور تمہاری منت سماجت کرتا ہوں مگر تم مجھے نہیں ملتے۔"

میں نے ان سے ہنس کر کہا۔ "گرفتھ صاحب! یہ لوگ شخصی فائدے کے لئے آپ کا طواف کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کوئی شخصی خواہش نہیں رکھتا کہ ایسی خوشامدیں کر کے اپنے آپ کو تھکاؤں۔"

گرفتھ صاحب نے میز پر مکہ مار کر کہا۔ "ایک بد قسمت حکومت جو دیانت دار لوگوں میں اپنے سے دور رکھتی ہے اور بد دیانت لوگوں سے گھری رہتی ہے۔ اس کا اس کے سوائے اور کیا انجام ہو گا کہ وہ فنا ہو جائے گی۔ خدا انگریز حکومت کی مدد کرے۔"

میں گرفتھ صاحب سے رخصت ہوا اور وہ وائسرائے ہند سے ملنے دہلی چلے گئے۔

میں اس امید میں تھا کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو میرے ملک اور ملت کے لئے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ دن بعد گرفتھ صاحب جب وائسرائے سے ملاقات کر کے واپس آ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ہاتھ صاف کیا اور ۲۴ دسمبر ۱۹۳۱ء کو مجھے گرفتار کر لیا۔ ہندوستان بھر میں سب سے پہلے مجھے ہی گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ ابھی تک گاندھی جی لندن کی گول میز کانفرنس سے بھی واپس نہیں آئے تھے۔ ہندوستان میں اندھا دھند مار پیٹ شروع ہو گئی اور میرے بعد ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔

Marfat.com

Marfat.com

عدم تشدد تحریک---پٹھانوں میں مقبولیت

ہمارے ملک میں ملک کی آزادی کے لئے دو قسم کی تحریکیں شروع ہوئی تھیں-ایک پر تشدد اور دوسری عدم تشدد پر مبنی- تشدد کی تحریک پہلے شروع ہوئی تھی-اور اس کے چالیس بچاس سال بعد ۱۹۲۹ء میں عدم تشدد کی تحریک شروع ہوئی تھی- تشدد کی تحریک کو انگریزوں نے تشدد کے ساتھ بہت جلد دبادیا تھا' لیکن عدم تشدد پر مبنی تحریک کو ناقابل بیان مظالم اور قید و بند کے باوجود انگریز نہ دبا سکے' تشدد کی تحریک نے لوگوں میں خطرہ اور بزدلی پیدا کر دی تھی اور لوگوں کو بے جرأت اور اخلاقاً کمزور بنا دیا تھا- لیکن عدم تشدد کی تحریک نے پٹھانوں کے دلوں سے خطرہ نکال باہر پھینکا اور ان میں بہادری پیدا کر دی-اس تحریک نے لوگوں کا اخلاق بلند کر دیا اور ان میں جرائت پیدا کر دی- تشدد کی تحریک نے لوگوں کے دلوں میں اس تحریک سے نفرت پیدا کر دی- اور عدم تشدد کی تحریک نے لوگوں میں باہمی پیار اور محبت پیدا کر دی- پٹھانوں میں قومیت اور بھائی چارے کی ایک نئی زندگی پیدا کر دی اور ان کی شاعری' ان کے ادب' ان کے تمدن اور ان کی معاشرت میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا- حقیقت یہ ہے کہ "تشدد نفرت ہے اور عدم تشدد محبت ہے-"

اس نفرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی کسی انگریز کو تو ہلاک کر دیا کرتا تھا مگر اس قتل کی سزا انگریز صرف اسی آدمی قاتل کو نہیں دیتے تھے بلکہ اس سے متعلقہ گاؤں اور سارے علاقے کو اجتماعی جرمانہ اور قید کی سزا دیا کرتے تھے لوگوں کی نگاہ میں اس تمام ظلم اور زیادتی کا سبب وہ آدمی انگریز کا قاتل اور اس کی پر تشدد تحریک تھی-اس وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی یہ سب مصیبتیں اس آدمی اور اسی تحریک کی وجہ سے ہیں- لیکن ہماری عدم تشدد پر مبنی تحریک میں تو ہر آدمی تکلیف کا خیر مقدم کرتا تھا-اس سے قوم کو کوئی

Marfat.com

نقصان نہیں پہنچتا تھا' فائدہ ضرور ہوتا تھا - یہی وجہ تھی کہ لوگوں میں اس تحریک کے تئیں ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی تھی - لہٰذا تشدد کی تحریک اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی اور یہ عدم تشدد کی تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی - اس نے ملک کو آزاد کرا لیا اور انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا -

خدائی خدمت گار تحریک صرف سیاسی تحریک نہیں ہے - یہ تحریک پٹھانوں کی سیاسی' مجلسی' اقتصادی اور روحانی تحریک ہے - اسی تحریک کی بدولت پٹھانوں میں پریم' پیار' محبت' بھائی چارہ' یگانگت اور قوم پروری کا احساس اور خدمت کے جذبات پیدا ہوئے ہیں - اس تحریک نے پٹھان قوم کو دوسرا بڑا فائدہ یہ پہنچایا ہے کہ چونکہ پشتون کا تمام تر تشدد اپنے بھائی کے خلاف تھا اور تشدد کے ہاتھوں ان کا گھر برباد تھا - عدم تشدد نے اسے آباد و شاداب بنا دیا - انگریز کہا کرتے تھے - "عدم تشدد پر کاربند پٹھان تشدد کے دیوانے پٹھانوں سے زیادہ خطرناک ہیں - " اور یہی وجہ تھی کہ ۱۹۳۲ء میں انگریزوں نے ہم پر بے شمار مظالم کئے! جبر و استبداد اور قیدوں کے علاوہ ایسے شرمناک کام بھی اس غرض سے کئے ہیں کہ پٹھان لوگ تشدد پر آمادہ ہو جائیں' لیکن انہیں اس کمینہ مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی - اس ظلم اور ناروا سلوک کی چند مثالیں بیان کر دینا بے جا نہیں ہو گا -

انگریزوں نے پٹھانوں کی شلواریں اتار لیں - پٹھانوں کو ننگا کیا - چارسدہ کی پکٹنگ میں تو انہوں نے خدائی خدمت گاروں کے تمام کپڑے اتار لئے اور ان کے خایوں یعنی فوطوں میں پھندے ڈالے گئے - پھندوں اور رسیوں کے ذریعے خدائی خدمت گاروں کے خایوں کو کھینچا جاتا تھا - جب وہ بیہوش ہو جاتے تھے تو انہیں ٹٹی پیشاب سے بھرے ہوئے ناند میں پھینک دیتے تھے - اور اس میں انہیں غوطے دیتے تھے - یہ تو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے صرف چارسدہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے - اسی طرح کے انتہائی شرمناک ناقابل بیان مظالم ہمارے صوبے میں انگریز نے روا رکھے - کوہاٹ میں ہمارے خدائی خدمت گاروں کو سرکاری آدمی پکڑ لیتے تھے اور انہیں پوس ماگھ کے مہینوں میں ہڈیوں کو کڑکڑا دینے والی سردی میں ٹھنڈے پانی کے اندر غوطے دیتے تھے - گولیوں سے خدائی خدمت گاروں کا اڑا دینا تو سرکار کا ایک شغل تھا - خدائی خدمت گار تحریک کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ صرف ہری پور کے ایک ہی جیل خانے میں دس بارہ ہزار خدائی خدمت گار قیدی تھے اور اتنی

Marfat.com

سخت سردی میں ان قیدیوں کو صرف ایک ایک کمبل اور ایک ایک چپاتی دی جاتی تھی۔ وہ بھی کسی کو ملتی تھی اور کسی کو نہیں ملتی تھی۔ بہت معزز اور تعلیم یافتہ قیدیوں کو بیدوں سے پیٹا گیا۔ ان سے چکیاں پسوائی گئیں۔ درگھائیوں میں باندھا گیا یعنی ان سے کولہو چلوائے گئے۔ اور انہیں قید تنہائی کی کوٹھریوں میں بند کیا گیا۔ قصہ کوتاہ یہ ہے کہ ایسا کوئی ظلم نہیں تھا جو ان غریبوں پر نہ توڑا گیا ہو۔

Marfat.com

Marfat.com

تین سال ہزاری باغ جیل میں

۲۴ دسمبر ۱۹۳۶ء کو میں ڈاکٹر خان صاحب کے بنگلے میں تھا- بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا تھا- آدھی رات کا وقت تھا کہ پولیس نے آکر مجھے گرفتار کر لیا اور میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو بھی پکڑ لیا- ہمیں موٹر میں بٹھایا گیا اور اٹک کے پل پر پہنچا دیا گیا- تھوڑی دیر کے بعد قاضی عطاءاللہ اور سعد اللہ کو بھی گرفتار کر کے وہاں لے آئے- سعد اللہ ڈاکٹر خان کا بڑا فرزند تھا اور انجنیر تھا اور ابھی ابھی انگلینڈ سے آیا تھا- وہاں ایک اسپیشل ٹرین کھڑی تھی- ہم سب کو اس میں بٹھا دیا گیا اور گاڑی روانہ ہوئی- ہمارے ساتھ ایک سردار خیل کابلی انسپکٹر پولیس تھا- وہ قاضی صاحب کا بھی واقف تھا- انسپکٹر صاحب نے بتایا کہ انہیں ڈاکٹر صاحب نے موت کے منہ سے بچایا تھا- دوسرا ہمارے ساتھ ایک پنجابی انسپکٹر تھا

میرا تو ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب میں گرفتار کر لیا جاتا ہوں اور جو پولیس میرے ساتھ ہوتی ہے' میں ان سے کوئی بات نہیں پوچھتا اور نہ ہی ان سے کچھ مانگتا ہوں- قاضی صاحب نے اس پشتون افسر سے اخبار مانگ لیا' لیکن وہ اسے ڈر کے مارے کب دیتا تھا- پنجابی انسپکٹر کا یہ کام تھا کہ جب کبھی ہم ڈبے کی کھڑکی کھول لیتے تھے تو یہ اسے فورا بند کر دیتا تھا تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے- آخر میں نے اس سے کہا کہ "ارے لڑکے! ہم عورتیں تو نہیں ہیں کہ تم یہ کھڑکیاں بند کرتے ہو اور تمہاری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے-" لیکن وہ بڑا بے شرم تھا-

جب ہمارا ڈبہ یوپی اتر پردیش میں پہنچ گیا تو یہاں سرحدی پولیس سے ہمارا چارج لینے کے لئے ایک انگریز افسر بہ ہمراہ ایک گورا سارجنٹ آیا ہوا تھا- وہ انگریز میرے پاس آیا

Marfat.com

اس نے میرے ڈبے کا دروازہ کھول دیا اور مجھے کہا۔ "آؤ باہر آکر اسٹیشن پر اپنے پاؤں آزاد کرنے کے لئے ٹہلو۔"

اب اس انگریز اور ان مسلمان افسروں کے رویے میں فرق کا اندازہ کیجئے۔ حالانکہ اول الذکر انگریزوں سے ہماری جنگ تھی۔ ان سے ہم حکومت لے رہے تھے اور وہ حکومت انہی اپنے بھائیوں کے لئے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثناء میں وہی انگریز آیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا اور اس میں شراب تھی۔ اس نے بڑے پیار و محبت سے مجھے پیش کی اور کہا کہ اسے پی لو' میں نے جواب دیا کہ میں شراب نہیں پیتا۔ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ میں اس کی یہ رواداری اور پریم کبھی نہیں بھلا سکا۔

جب ہم الہ آباد پہنچے تو یہاں ڈاکٹر خان صاحب کو اتار لیا گیا اور انہیں نینی جیل میں بھیج دیا گیا۔ جب گاڑی تھوڑی اور آگے بڑھی تو سعد اللہ خاں کو ہم سے علیحدہ کر لیا گیا اور اسے بنارس جیل پہنچا دیا گیا۔ پھر بہار کا صوبہ شروع ہو گیا اور بہار میں قاضی عطاء اللہ کو ہم سے علیحدہ کر لیا گیا اور انہیں گیا کے جیل لے جایا گیا۔ اور مجھے ہزاری باغ کے جیل خانے میں لے جایا گیا۔ ہزاری باغ جیل اسٹیشن سے چالیس میل دور ہے مجھے جب موٹر میں بٹھایا گیا تو میرے ساتھ پشاور کا سردار خیل انسپکٹر اور دو انگریز افسر بھی بیٹھ گئے ایک ڈپٹی کمشنر تھا اور دوسرا سپرنٹنڈنٹ پولیس تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی انہوں نے مجھے انگریزی کا ایک اخبار پڑھنے کو دیا۔ وہی اخبار جو ہمارا سردار خیل انسپکٹر اپنے دوست اور محسن کو نہیں دیتا تھا۔ جس نے اس کے اپنے قول کے مطابق اسے مردہ سے زندہ کر دیا تھا۔

جب میں جیل خانے میں داخل ہوا تو جیل خانے کے اس افسر نے جو ہندو تھا میرے پاس آکر مجھ سے پوچھا۔ "یہ پولیس افسر سردار خیل کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے؟"

میں نے ان سے پوچھا۔ "یہ آپ کیوں دریافت کرنا چاہتے ہیں؟"

انہوں نے مجھے بتایا کہ "یہ تو ایک بہت رزیل انسان ہے۔ مجھے کہتا تھا کہ اس آدمی کا خوب خیال کرنا۔ یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔"

مجھے ایک بارک میں تن تنہا بند کر دیا گیا۔ اور بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کے بغیر اور کسی کو میرے پاس آنے یا مجھے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں شاہی قیدی تھا۔

کلکٹر ہر مہینے میرے پاس آتا تھا۔ میں ہمیشہ تنہائی میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ آہستہ آہستہ

Marfat.com

میری صحت گرنے لگی۔ وہ کلکٹر بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس نے حکومت کو لکھا کہ گیا میں میرا جو ساتھی ہے اسے میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ قاضی صاحب گیا میں تھے۔ وہ بھی تنہائی میں تھے اور مجھے تو پھر بھی تھوڑی بہت نیند آجاتی تھی۔ لیکن اس بے چارے کو تو بالکل نیند نہیں آتی تھی۔ میری طرح سے وہ بھی حکومت کی آنکھوں میں کانٹا تھے۔ کلکٹر کی اس سفارش کی حکومت نے مخالفت کی اور ان کی بجائے حکومت نے میرے پاس ڈاکٹر خان صاحب کو بھیج دیا جب ڈاکٹر صاحب آگئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے تو ہمیشہ اس بارک میں بند رکھا جاتا ہے اور وہ نہنی جیل میں باہر پھرا کرتے تھے۔

ہزاری باغ کے اس جیل کا سپرنٹنڈنٹ ایک پنجابی تھا اور وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جنگ یورپ میں کہیں ایک ہی جگہ رہا تھا۔ مگر بڑا بزدل تھا۔ ڈاکٹر صاحب جب کبھی باہر ٹہلنے کی بات کرتے تو وہ کہا کرتا۔ "بھائی میں مارا جاؤں گا۔" لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں بنگلے کے باہر سے باہر جانے کی اجازت دے ہی دی۔ اس کے بعد جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس جیل خانے میں تو راجندر پرشاد' آچاریا کرپلانی اور بہار کے دیگر بہت سے قیدی ہیں تو ہم کبھی کبھی ان سے ملنے لگے۔

بہار کے لوگ بہت اچھے اور شریف انسان ہیں۔ جب ہمیں اجازت مل گئی تو ہم کبھی کبھار جیل خانے میں گھوما پھرا کرتے تھے اور ان دوسرے قیدیوں سے بھی ملتے تھے اور ہمارے ان سے تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ ہمارے جیل خانے کا افسر جسے چھوٹا صاحب کہتے تھے بڑا اچھا آدمی تھا اور قوم پرستوں سے بڑی ہمدردی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو سیاسی قیدی کل کو رہا ہو گا سے آج ایک دن پہلے شام کو ہمارے پاس بھیج دیا کرے چنانچہ جو بھی سیاسی قیدی رہا ہوتا تھا اسے ہم چائے پارٹی دیا کرتے تھے۔ بہار کے لوگ ویسے تو بہت اچھے ہیں مگر ان میں چھوت چھات بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی چھوت چھات میں بڑی کمی آگئی۔ اور ان کی بہت سی اصلاح ہو گئی۔

ایک دن ایک شخص کو چائے پارٹی پر ہم نے اپنا مہمان بنایا۔ جب چائے آگئی تو چائے کے ساتھ پکوڑے اور تلے ہوئے بینگن بھی تھے۔ میں مہمان کے لئے پیالی میں چائے ڈالتا تھا اور پیالی اس کے ہاتھ میں پکڑواتا تھا اور پھر میں پکوڑے اٹھاتا تھا اور اسے دے دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بینگن اٹھا کر اسے دیتے تھے۔ وہ چائے پیتا تھا اور پکوڑے کھاتا تھا۔ جب چائے ختم ہو

Marfat.com

گئی تو وہ ہنسنے لگا میں نے جب اس سے دریافت کیا کہ یہ ہنسی اسے کس بات پر آئی تو اس نے کہا کہ ہم میں اتنی چھوت چھات تھی کہ ایک دن ایک مسلمان پوسٹ مین آیا تھا-اس نے مجھے میرا ایک پوسٹ کارڈ دیا تھا-پوسٹ مین سے کارڈ لیتے وقت میں نے اس کارڈ کو اپنی انگلیوں میں ایک کونٹ سے پکڑا - دوسرا کونا مسلمان پوسٹ مین کے ہاتھ میں تھا-اس وقت میرا بھائی پاس کھڑا تھا-اس نے مجھ پر پانی ڈالا اور کہا کہ تو بھرشٹ ناپاک ہو گیا ہے-

بہار کے رہنماؤں سے مجھے محبت تھی-میں ان کی وہ محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکوں گا-بہار کے عورت مرد دونوں بڑے بہادر ہیں اور انہوں نے ملک کی آزادی کے لئے بڑی قربانیاں کی ہیں-مردوں کو تو چھوڑ دیجئے-میں آپ کو ایک عورت کی کہانی سناتا ہوں-یہ خاتون ہمارے ساتھ جیل خانے میں قید تھی-ایک دن چھوٹا صاحب آیا اور اس نے مجھے اس عورت کا قصہ سنایا-ان نے مجھے بتایا- آج اس جیل خانے میں ایک عورت کا خاوند جو وکیل ہے اس سے ملاقات کے لئے آیا تھا-اس کے ہمراہ پانچ بچے بھی تھے- ملاقات کے دوران اس نے اپنی عورت کی بڑی منت سماجت کی کہ یہ جو دو چھوٹے بچے ہیں یہ وہ لے لے اور یہ تین اس کے پاس رہیں گے-یعنی دو وہ عورت اور بڑے تین بچے اپنے پاس رکھے گا-

عورت نے خاوند کو جواب دیا-"سب بچے تم ہی رکھو گے-میں تو انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی تم ہی نے میری بات نہیں مانی تھی-اب میں انہیں نہیں رکھوں گی-"

چھوٹے صاحب نے کہا-"میں نے اس عورت سے پوچھا کہ ان بچوں کو تم کیوں نہیں رکھتیں؟" اس نے جواب دیا-"جب کانگریس نے جنگ کا بگل بجایا تھا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ یہ ملک و قوم کی جنگ ہے-لوگ جا رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ- لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس نے ایک دو مقدمے عدالت میں دائر کر رکھے ہیں-وہ مقدمے جب ختم کر لے گا تو وہ اس جنگ میں حصہ لے گا-کچھ دن کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ مقدمے ختم ہو گئے ہیں یا ابھی باقی ہیں؟ اس نے جواب دیا تھا کہ نہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں- کچھ دن کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کچھ گول مول سا جواب دیا تب میں سمجھ گئی کہ یہ جیل جانے کے لئے تیار نہیں ہے-تو میں خود چلی گئی- پکٹنگ پر کھڑی ہو گئی مجھے گرفتار کر کے اس جیل میں قید کر دیا گیا-"

Marfat.com

اس جیل خانے میں راجندر بابو اور ان کی ہمشیرہ بھی قید تھیں۔اس طرح سے بہت سی عورتیں اور مرد اسی جیل خانے میں ہمارے ساتھ قید تھے۔جس قوم کی عورتیں اور مرد اپنے ملک کی آزادی کے لئے کمر کس لیتے ہیں وہی اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے۔یہی وجہ تھی کہ انگریز مجبور ہو گئے کہ وہ چلے جائیں۔لہٰذا انہوں نے ہمارا ملک ہمارے حوالے کر دیا

Marfat.com

Marfat.com

رہائی کے بعد کلکتہ آمد

تین سال کے بعد جب ہم ہزاری باغ جیل سے رہا ہوئے تو ہم اس عورت کے مہمان بنے - میں شاہی قیدی تھا میرے بچوں کو الاؤنس نہیں دیا جاتا تھا- حالانکہ ڈاکٹر خان صاحب اور قاضی صاحب کے بچوں اور ان کے گھر کے دوسرے آدمیوں کو الاؤنس دیا جاتا تھا- اور سعد اللہ کی ماں کو بھی الاؤنس ملتا تھا' لیکن میرے بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا- اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غنی پیسوں کی کمی کی وجہ سے امریکہ سے واپس آگیا اور اپنی تعلیم کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا- میری اپنی جائیداد بھی بہت تھی- کیونکہ ہم تو سب قید ہو گئے تھے- ہمارا کوئی رہا نہیں تھا اور حکومت کے اشارے پر ہمارے کاشتکاروں یعنی زرعی مزدوروں نے ہمارا مال خرد برد کر دیا تھا

تقریباً تین سال کے بعد ہمیں رہا کیا گیا لیکن صوبہ سرحد اور پنجاب میں ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا- ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہم لوگ ہندوستان بھر میں چل پھر سکتے ہیں لیکن پنجاب اور سرحد میں نہیں جا سکتے-

بہار میں ہمارے بہت سے سیاسی قیدی دوست بن گئے تھے- ہم ہزاری باغ سے پٹنہ چلے گئے- راجندر پرشاد اور دوسرے دوستوں سے ملنے کے بعد ہم وارد ھا گئے- وارد ھا میں گاندھی جی تھے- انہوں نے اور سیٹھ جمنالال جی بجاج دونوں نے ہمیں وہاں آنے اور رہنے کی دعوت دی تھی- ہم وہاں چلے گئے- ۱۹۳۴ء میں بمبئی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس تھا- ہمارے وارد ھا پہنچنے کی اطلاع جب سارے کانگریسی حلقوں میں پہنچ گئی تو استقبالیہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ باچا خان یعنی مجھ کو اس کانگریس کا صدر بنایا جائے اور راجندر پرشاد نے مجھے تار بھی دے دیا کہ مجھے صدارت کے لئے منتخب کر لیا گیا ہے اور وہ استعفیٰ دیتے ہیں اور مجھے اپنی جگہ پر صدر مقرر کرتے ہیں' لیکن میں نے یہ بات منظور نہ کی اور تار

Marfat.com

ے ذریعے انہیں اطلاع دے دی کہ "میں ایک سپاہی ہوں' خدائی خدمت گار ہوں- میں خدائی خدمت گاری کروں گا-" کچھ دنوں کے بعد ہم وارد ھا سے کلکتہ چلے گئے- وہاں کی کارپوریشن نے ہمیں استقبالیہ ایڈریس پیش کیا- میرا یہ خیال تھا کہ اس صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور سیاسی طور پر وہ پسماندہ ہیں لہٰذا میں ان کی خدمت کروں گا- میں نے کلکتہ میں مختلف جگہوں پر چند تقریریں کیں اور مسلمانوں پر یہ بات واضع کی کہ میں یہاں تمہاری خدمت کے لئے آیا ہوں- میں دیہات میں کام کرنا چاہتا تھا- کیونکہ مصیبت دیہات میں ہوا کرتی ہے- اور مصیبت زدہ لوگ بھی دیہاتوں میں بستے ہیں- کلکتہ میں مسلمانوں کی ایک مجلس تھی- سہروردی بھی اسی مجلس کے ممبر تھے اور انہیں کے قماش کے دیگر مسلمان بھی اس میں تھے- ان لوگوں نے میری امداد تو درکنار الٹی سر توڑ کوشش کی کہ میں دیہات میں نہ جا سکوں کیونکہ اس سے ان کی لیڈری میں فرق پڑتا تھا- جب میں ان مسلمانوں سے بالکل مایوس ہو گیا تو پروفیسر پرپھل گھوش نے جو میرے دوست تھے اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ دیہات میں جائیں گے اور کہ یہ مسلمان تو مردہ ہیں- مجھے بنگال کے آدمی کی اس لئے ضرورت تھی کہ دیہات کے لوگ سوائے بنگالی زبان کے دوسری کسی زبان کو نہیں سمجھتے تھے- اور میں بنگالی نہیں جانتا تھا-

پرپھل بابو اور میں دیہات کے دورے پر چل پڑے- ہم جس گاؤں میں بھی جاتے وہاں میں اپنے طریقے پر کام شروع کرتا- میں لوگوں سے ملتا' ان سے بات چیت کرتا' انہیں میں یہ سمجھاتا کہ ہندوستان سونے کا دیش تھا- ہر گھر میں دودھ اور گھی کی افراط تھی- چاول عام تھے- لیکن اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے بھوکے پیاسے ننگے بدحال اور خوار و زار ہیں- وہ غریب میری باتیں بڑے غور خوض سے سنتے تھے- آخر میں ہم انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہوتا اور اس ملک کی باگ ڈور تمہارے ہاتھوں میں نہیں آتی تب تک تم اور تمہارے بچے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھا سکیں گے-

اس طرح جب ہم نے کچھ دن لوگوں میں گھوم پھر لیا تو ہم نے ایک جگہ جلسہ منعقد کر دیا- ہمارے اس پہلے جلسے میں پچاس ساٹھ آدمی جمع ہوئے تھے- کچھ دنوں کے بعد جب ہم نے دوسرا جلسہ کیا تو اس میں دو سو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور اس طرح بتدریج جلسوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی- اس اثناء میں بمبئی کانگریس کا وقت قریب آ گیا اور ہم بمبئی چلے گئے- جانے سے پہلے میں نے پرپھل بابو سے کہہ دیا کہ یہ لوگ مردے نہیں ہیں- مگر انہیں زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہے-

Marfat.com

ایک بار پھر قید تنہائی

بمبئی کے کانگریس اجلاس میں وہاں کی کرسچن سوسائٹی کے چند آدمی میرے پاس کانگریس پنڈال میں آئے اور مجھے دعوت دی میں ان کی سوسائٹی میں گیا۔انہوں نے مجھ سے خدائی خدمت گاری کے بارے میں پوچھا۔میں نے ان سے خدائی خدمتگاری کا سارا قصہ بیان کیا اور ہمارے ساتھ جو بیتی تھی وہ ابھی میں نے انہیں سب سنادی۔مجھے اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ سچ بولنا بھی انگریزوں کے قانون میں جرم ہے۔جب کانگریس کا اجلاس ختم ہو گیا اور ہم واپس وردھا چلے آئے اور بنگال جانے کا پروگرام بنالیا اور یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہاں میں اتنے دن تک کام کرتا رہوں گا کہ جب تک مجھے اپنے صوبے میں واپس جانے کی اجازت نہیں مل جاتی۔

میرے اس ارادے کا پتہ جب حکومت کو لگ گیا تو اس کے من چھنا کا بیتا کہ بنگال کے ہندو تو پہلے ہی سے بیدار ہیں اور اگر یہ مسلمان بھی جاگ پڑے تو پھر وہ ان کی چوری نہیں کر سکے گی اور اس کی خیر بھی نہیں ہوگی۔پھر کیا تھا۔پولیس آگئی۔مجھے گرفتار کر لیا گیا۔میں نے بمبئی میں جو تقریر کی تھی اس کی پاداش میں مجھے دو سال قید سخت کی سزا ہو گئی۔پہلے مجھے بمبئی کے جیل خانے میں بند کیا گیا۔پھر وہاں سے سابرمتی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔اس جگہ کا ایک انگریز سپرنٹنڈنٹ بڑا سخت مزاج تھا۔مجھے اس نے اکیلے ایک وارڈ میں بند کر دیا۔اس وارڈ میں نمبردار کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔وہ وارڈ کا دروازہ باہر سے تالا لگا کر بند رکھتا تھا۔اور باہر ہی پہرا رہتا تھا۔اس جگہ کی خوراک اور ہماری خوراک میں بڑا فرق تھا۔مجھے بی کلاس دی گئی تھی۔لیکن اس صوبے کی بی کلاس اور ہمارے یہاں کی سی کلاس میں کوئی فرق نہیں تھا۔یہاں بی کلاس کے لئے چارپائی نہیں تھی۔میں فرش پر سویا کرتا تھا۔میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔یہاں بندر بہت تھے۔میں انہی بندروں سے کھیلا کرتا

Marfat.com

تھا- جب میں بہت سخت بیمار پڑ گیا- مجھے انفلوئنزہ ہو گیا- لیکن باوجود اتنی سخت بیماری کے مجھے ہسپتال نہیں لے جایا گیا- یہاں تک کہ وارڈ میں بھی مجھے چارپائی نہ دی گئی- میں سیمنٹ کے فرش پر پڑا رہتا تھا' لیکن خدا نے اپنی مہربانی سے مجھے صحت یاب کر دیا-

کچھ مدت کے بعد صوفیہ میری ملاقات کے لئے آئی- اس کے بعد گاندھی جی بھی تشریف لے آئے اور ان کی کوشش سے کچھ عرصے کے بعد مجھے اے کلاس دے دی گئی- میرا کھانا بنانے والا کوئی نہیں تھا اس دوران جیل خانہ جات کا جرنیل دورے پر آگیا اور جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے اس سے دو مطالبے کئے- ایک یہ کہ بمبئی میں میرا ایک باورچی تھا یہاں میرا باورچی نہیں ہے- لہٰذا مجھے وہ باورچی منگوا دیا جائے اور دوسرا یہ کہ اس جگہ کی آب و ہوا مجھے موافق نہیں ہے لہٰذا مجھے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے- جرنیل بہت شریف آدمی تھا- صوبہ سرحد میں بھی رہ چکا تھا- اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پنجاب کو منتقل کر دیتا ہے- اور میرے لئے پشاور سے پشتون باورچی منگوا دیتا ہے- میں نے اسے بہت کہا کہ پنجاب مجھے لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور میں وہی بمبئی والا اپنا باورچی مانگتا ہوں- پشاوری باورچی نہیں چاہئے- اس کا خیال تو نیک تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر مجھے پنجاب بھیج دیا جائے گا تو میں گھر کے نزدیک ہو جاؤں گا اور جب میرے لئے پٹھان باورچی آجائے گا تو اسے مجھ سے ہمدردی ہو گی اور وہ میری خدمت بڑی اچھی طرح کرے گا- اس نے کوشش کی- لیکن پنجاب نے تو مجھے لینے سے انکار کر دیا اور پشاور سے جیل والوں نے ایک ایسا آدمی بھیج دیا جو کھانا پکانا تو جانتا نہیں تھا لیکن ٹی بی کا مریض تھا- اسے بھیجنے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو میرے ساتھ رہے گا تو مجھے بھی ٹی بی ہو جائے گی-

مجھے احمد آباد کے سابرمتی جیل سے ڈسٹرکٹ جیل بریلی میں بھیج دیا گیا- بریلی میں سنٹرل جیل بھی تھا اور اس میں سیاسی قیدی بھی تھے- اگر مجھے وہاں منتقل کیا ہوتا تو مجھے آرام رہتا' لیکن وہ تو مجھے تکلیف دینا چاہتے تھے- اس طرح میری قید و بند کا دور چلتا رہا-

ایک دن آیا کہ ڈاکٹر خان صاحب جب سنٹرل اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے تب انہیں صوبہ سرحد جانے کی اجازت مل گئی- ڈاکٹر خان اور ان کی اہلیہ صاحبہ مجھے ملنے کے لئے بریلی میں آئے- اس جگہ کے جیل خانے کے جرنیل صاحب بہت اچھے آدمی تھے- کرنل سلامت اللہ خان ان کا نام تھا- جب وہ دورہ کرتے ہوئے اس جیل خانے میں آئے تو میں نے

Marfat.com

ان کے سامنے بلورچی سے نجات دلانے کا مطالبہ رکھا- میں نے انہیں بتایا کہ میرا بلورچی اصل میں بلورچی نہیں ہے ٹی بی کا مریض ہے- اسے میرے پاس اس لئے بھیجا گیا ہے کہ مجھے بھی یہی مرض لگ جائے- مجھے بلورچی مت دیجئے لیکن اس بلورچی سے مجھے خلاصی دلوائے- اسے بھی تکلیف ہے اور مجھے بھی تکلیف ہے- جرنیل صاحب نے مہربانی کی اور اسے اس جگہ سے رخصت کر دیا- اس طرح مجھے اس بلورچی سے نجات مل گئی-

یہاں مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے رفیع احمد قدوائی بھی آئے تھے- جیل خانہ جات کے وزیر صاحب بھی تشریف لائے تھے- اس وقت گرمی شروع ہو گئی تھی- انہوں نے لکھا کہ مجھے کسی ٹھنڈی جگہ پر بھیج دیا جائے' لیکن حکومت نے جب تک گرمی رہی مجھے ٹھنڈی جگہ نہ بھیجا اور جب برسات شروع ہو گئی اور لوگ پہاڑوں سے میدانوں کی طرف آ رہے تھے تب مجھے الموڑہ بھیج دیا گیا- وہاں دو دو تین تین دن تک مسلسل بارش جاری رہتی تھی اور میں بارک سے باہر نہیں نکل سکتا تھا- میری قید کی میعاد پوری ہو گئی اور رہائی کے وقت مجھے پھر یہ نوٹس مل گیا کہ میں پنجاب اور سرحد میں نہیں جا سکتا- لہٰذا میں ۱۹۳۶ء میں پھر واپس وردھا آ گیا- جب ہمارے صوبے میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن ختم ہو گئے تو اگست ۱۹۳۷ء میں اپنے صوبہ میں چلا گیا-

Marfat.com

Marfat.com

سرحد اسمبلی کے انتخابات

۱۹۳۷ء میں سرحد اسمبلی کے الیکشن ہو گئے -اس میں اکثریتی پارٹی خدائی خدمت گاروں کی تھی -مگر گورنر نے وزارت بنانے کی دعوت سر نواب صاحبزادہ عبدالقیوم کو دی - جسے اس کے اپنے حلقے میں خدائی خدمت گاروں کے ہاتھوں شکست فاش کھانی پڑی تھی اور ضلع ہزارہ کے غیر پختون حلقے سے کامیابی حاصل ہوئی تھی - حکومت کی امداد سے ہندو، سکھ اور آزاد ممبران کا تعاون اسے حاصل ہو گیا اور اس نے اپنی وزارت قائم کی لیکن وہ بہت دن چل نہ سکی اور وہ پانچ چھ ماہ کے بعد شکست کھا گئے - ۳ دسمبر ۱۹۳۷ء کے دن جب صاحبزادہ صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی تو ڈاکٹر خان صاحب نے خدائی خدمت گار ممبران کے تعاون سے وزارت بنائی -اس وزارت میں قاضی عطاءاللہ صاحب وزیر تعلیم تھے - قاضی صاحب نے پرائمری تک اسکولوں میں پشتو تعلیم جاری کرنے کے علاوہ اس زبان کو لازمی قرار دے دیا اور اس وزارت نے لوگوں کی بہبودی کے لئے اور بھی تھوڑے بہت کام کئے تھے -

اس وزارت نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ پشتو زبان ملک میں رائج کر دی - انگریزوں نے اس زبان سے بڑی بھاری بے انصافی کی تھی - ہندوستان بھر میں ہندوستانی بچوں کو ابتدائی تعلیم اپنی ماوری زبان میں دی جاتی تھی لیکن ایک پشتون قوم تھی کہ اس کے بچے اس سے محروم کئے گئے تھے -

اس وزارت نے ہماری تحریک کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچایا - کیونکہ دراصل طاقت اور اختیار گورنر کے ہاتھوں میں تھے -اور ماتحت افسر نہ تو وزیروں کا حکم مانتے تھے اور نہ ہی وزیروں سے تعاون کرتے تھے - وہ گورنر کی آنکھ کے اشارے کی طرف دیکھتے رہتے

Marfat.com

تھے-وہ جیسا اشارہ کرتے ویسا ہی وہ کام کرتے تھے-دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے تو محض آٹھ آنے حاصل کئے تھے اور قوم مانگتی تھی پورا روپیہ- لیکن ہمارے پاس روپیہ کہاں تھا-علاوہ ازیں ہماری تحریک میں سنڈیکیٹ کی ایک نئی بلا بھی نازل ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے کارکن دیانت داری اور ایمانداری سے کنٹرول کی چیزوں کی تقسیم نہیں کر پائے تھے-

۱۹۳۹ء میں جنگ شروع ہو گئی اور ہندوستان کی تمام صوبوں کی کانگریسی وزارتوں کے ساتھ ہماری وزارت بھی مستعفی ہو گئی-

جس وقت جنگ میں جاپان بھی شامل ہو گیا تھا اس وقت سورت میں (پونا ہونا چاہئے) کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا-اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ "ہم جنگ میں انگریزوں کی امداد کرنے کو تیار ہیں لیکن اس شرط پر کہ انگریز جنگ کے بعد ہمیں آزادی دینے کا اعلان کر دیں-" اس موقع پر میں نے اور مہاتما گاندھی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی سے استعفے دے دئے کیونکہ ہم تشدد کے قائل نہیں تھے اور جنگ میں انگریزوں کی امداد کرنے کے معنی تشدد کو تقویت پہنچانا تھا-

Marfat.com

صوبہ سرحد میں ستیہ گرہ کی تحریک

اس اجلاس کے بعد ملک میں انفرادی ستیہ گرہ شروع ہو گیا' لیکن مہاتما جی کی منظوری کے بغیر کسی کو ستیہ گرہ کے کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صوبہ سرحد کے لئے گاندھی جی نے اپنے یہ اختیارات مجھے منتقل کر دئے تھے۔ صوبہ سرحد میں حکومت ستیا گرہیوں کو گرفتار نہیں کرتی تھی چونکہ انگریز اس جنگ کو بار بار آزادی اور جمہوریت کی جنگ کا نام دیتے تھے' لیکن ہندوستان کو آزادی دینے کا نام نہیں لیتے تھے' اس لئے کانگریس نے مجبور ہو کر انگریزوں کی غیر ملکی حکومت کے خلاف ایک اجتماعی تحریک شروع کر دی۔ یہی وجہ تھی' کہ کانگریس نے ۸ اگست ۱۹۴۲ء کے روز بمبئی میں انگریز کے خلاف "بھارت چھوڑو" نام سے ایک قرارداد منظور کر لی۔ اس قرارداد کی رو سے انگریزوں سے سارے ہندوستان اور صوبہ سرحد میں یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ۔ "اے انگریز و ہندوستان خالی کر دو' یہاں سے نکل جاؤ۔" جہاں انفرادی ستیہ گرہ کے دوران ستیہ گرہی ملک کے عوام سے کہتے تھے کہ " انگریزوں کو موجودہ جنگ میں مالی و جانی امداد گناہ ہے۔ یعنی چندہ اور بھرتی نہیں دینا چاہئے۔" وہاں اجتماعی تحریک میں ہر ایک انگریز کے خلاف "بھارت چھوڑو" کا نعرہ لگایا جاتا تھا اور انگریز حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر کے ہزاروں لوگ گرفتار ہوتے تھے۔ انہی دنوں ہم نے سردیاب کے کنارے خدائی خدمت گاروں کا ایک مرکز قائم کیا جس کا نام "مرکز اعلیٰ خدائی خدمت گاران" تھا۔ ہندوستان میں سول نافرمانی شروع ہو گئی تھی لیکن صوبہ سرحد میں ابھی تک ہم نے شروع نہیں کی تھی۔

جس وقت ہم نے سول نافرمانی کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے جرگے نے تمام اختیارات مجھے دے دئے اور میں ہی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لئے ڈکٹیٹر مقرر کیا گیا۔ دراصل میں تو لفظ ڈکٹیٹر ہی سے لرزتا ہوں' کیونکہ مطلق العنانی اور ڈکٹیٹری میری

Marfat.com

فطرت میں موجود نہیں ہے-اسے میں پسند نہیں کرتا'اسی لئے میں جو کچھ بھی کرتا' یاہر وہ حکم جو میں دیا کرتا اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورہ کر لیتا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس وقت سول نافرمانی کرنے یانہ کرنے کے سوال پر جرگے میں بحث جاری تھی تو ہزارہ کے حاجی فقیرا خان نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں ٹیلی فون کے تار کاٹنے اور ریل کی پٹڑیاں اکھاڑنے کی اجازت دی جائے-میں نے ان سے کہا کہ یہ میں صرف اس شرط پر مان سکتا ہوں کہ جو آدمی ریل کی پٹڑی کو نقصان پہنچائے یا تار کاٹے اسے چاہئے کہ وہ یہ کام کر کے خود پولیس تھانے میں جاکر اور پوری صاف گوئی و جرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ "یہ کام میں نے کیا ہے-" اس سے ایک تو پشتونوں کے اندر اخلاقی جرات پیدا ہو جائے گی اور چونکہ وہ یہ جرات آمیز کام کھلے بندوں کریں گے تو اس سے اس غیرت بھرے اعلان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں بھی اخلاقی جرات کی ایسی علوت پیدا ہو جائے اور تیسری بات یہ ہو گی کہ اس کے کام کی وجہ سے اور لوگوں پر بے جا شک و شبہ نہیں ہو گا اور خدا کی مخلوق آزاد اور سختی کا شکار نہیں ہو گی-

بہر حال میری ہدایت اور ڈسپلن کے تحت خوب زور شور سے سول نافرمانی شروع ہو گئی- فیصلے کے مطابق ہم لوگ عدالتوں اور کچہریوں پر چھاپے مارتے تھے-بنوں 'کوہاٹ' ٹانک اور پشاور میں عدالتوں پر حملے شروع ہو گئے تھے-انگریزوں کی طرف سے ہماری اس تحریک کا جواب بڑی سختی سے دیا گیا- لیکن پشاور کے ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر نے انگریزوں کی روایتی وفاداری میں انگریزوں سے بھی زیادہ اپنی انگریز پرستی کو اونچا چھالا اور انگریزی کی یہ مثل درست ثابت کرنے کی کوشش کی کہ "بادشاہ سے بھی زیادہ بادشاہی کا خیر خواہ نکلا-" اس ذات شریف کا نام جناب اسکندر مرزا تھا- جہاں انگریز حکمران اپنے علاقوں میں اپنی فوجوں کو لوگوں پر لاٹھی چلانے کا حکم دیتے تھے-جناب مرزا بذات خود اٹھ کھڑے ہو جاتے اور لاٹھی ہاتھ میں لے کر خدائی خدمت گاروں کو مار مار کر ادھ موا کر دیتے تھے- حتہ کہ ایک خدائی خدمت گار ان کی لٹھ بازی سے شہید ہو گیا-اس خدائی خدمت گار کا نام سید اکبر تھا-جناب مرزا کے کارناموں میں سے ایک اور شریفانہ واقعہ بھی لکھ دینا چاہئے- آپ نے خدائی خدمت گاروں کے کیمپ میں ان کے سالن میں ایک دن زہر ڈال دی تھی اور اس سے وہ تمام خدائی خدمتگار جنہوں نے کھانا کھالیا تھا وہ ایسے بیمار ہوئے کہ موت کے دروازے

Marfat.com

پر پہنچ گئے۔

ان مرزا صاحب کے ہم پنھانوں پر اور بھی بہت سے احسانات اور مہربانیاں ہیں' لیکن میں ان پر پردہ ڈالتا ہوں اور انہیں اس خدا کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس ہم سب کو ایک دن حاضر ہونا ہے۔ مرزا صاحب بعد میں پاکستان کے صدر مملکت بھی بن گئے تھے اور وہ اسلام اسلام' اور وطن پرستی کے نعرے بھی لگانے لگ گئے تھے اور میں بھی ان کی صدارت کے دوران وطن دشمنی' اور نامسلمانی' کے الزام میں جیل میں قید و بند کی اذیت اٹھاتا رہا۔

خیر میں وقتاً فوقتاً سنہ گرہ کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے صوبے میں پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں کوہاٹ کی طرف جا رہا تھا کہ درے کے' سنہ تھانے' میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے موٹر میں بٹھا کر پشاور لے جایا گیا اور وہاں مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح جہاں بھی میں جاتا تھا یہ لوگ انگریز حکومت کی پولیس مجھے گرفتار کر لیا کرتے تھے اور مجھے واپس پشاور لا کر چھوڑ دیتے تھے' لیکن مجھے یہ سلوک پسند نہیں تھا' اس لئے میں نے پچاس آدمیوں کا ایک جتھا بنایا اور ہم لوگ چارسدہ سے پیدل پامر دان کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم جگہ بہ جگہ جلسے کرتے تھے۔ جس وقت ہم لوگ میروس ڈھیری میں پہنچے تو یہاں ہمارے لئے پولیس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایسی زنجیر سی بنا رکھی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے اور اگر پولیس والے ہمیں جدا کر بھی دیتے تھے تو بھی ہماری پھر یہ کوشش ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ پولیس نے لاٹھیاں سنبھال لیں اور ہم پر تابڑ توڑ برسانی شروع کر دیں۔

انگریز کی حکومت نے ہماری تحریک کے ابتدائی دور کو چھوڑ کر دشمنی اور سختی کے باوجود ہمیشہ میری عزت کی تھی اور شخصی طور پر انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا تھا کہ جس سے میری بے عزتی ہوئی ہو' یا مجھے مار پیٹ کی گئی ہو' یا مجھے زخمی کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ میں ایبٹ آباد کے جیل خانے میں قید تھا۔ ہمارے جیل خانہ جات کے جرنیل مسٹر اسمتھ دورے پر ایبٹ آباد آئے تھے اور سیدھے مجھے دیکھنے کے لئے جیل میں چلے آئے۔ میں جیل میں ایک چھوٹی سی تنہا کوٹھری میں اکیلا الگ تھلگ بند تھا۔ اسمتھ صاحب نے میرے ساتھ علیک سلیک کے بعد باہر جا کر سپرنٹنڈنٹ جیل کی طرف دیکھ کر غیض و غضب بھرے ہوئے لہجے میں کہا "باچا خان کو تم نے کبوتروں کی کوٹھری

Marfat.com

ارے میں ڈالا ہوا ہے۔ تم نے اسے ہسپتال کے بڑے کمرے میں کیوں نہیں بھیجا۔"

اس نے سمتھ صاحب کو بڑے ادب اور آہستگی سے کہا۔ "حکومت سرحد کا حکم ایسا ہی ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔"

سمتھ صاحب نے اسی وقت اسی جگہ سے گورنر سرحد کو ٹیلیفون کیا اور ان سے کہا۔ جارج کنگھم! کیا کوئی اپنے ایک بہادر دشمن سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ آپ نے باچا خان کے ساتھ روا کر رکھا ہے۔"

کنگھم اپنے کرتوتوں پر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ لیکن سمتھ صاحب نے اس سے پہلے ہی مجھے کسی اچھی جگہ منتقل کرنے اور میرے لئے اچھے ساتھی مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ میر الڑکاولی اور تین دیگر ساتھی میرے پاس بھیج دئے گئے تھے حالانکہ میں نے اسمتھ صاحب سے ایسی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ جس وقت وہ مجھے ساتھی دینے لگے تھے تو انہوں نے مجھ سے دریافت ضرور کیا تھا کہ مجھے کونسے ساتھی چاہئیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جو انہیں پسند ہوں' لیکن سمتھ صاحب نے میرے پاس جواب بھیجا تھا کہ یہ ساتھی انہیں اپنے لئے تو نہیں چاہئیں۔ یہ میرے لئے ہیں' اس لئے مناسب یہ ہے کہ میں خود اپنی پسند کے ساتھ طلب کروں۔ وہ مجھ پر اپنی پسند نہیں ٹھونسنا چاہتے۔

سمتھ صاحب کے اس فراخدلانہ سلوک کا ذکر کرتے ہوئے یہاں مجھے پاکستان کی حکومت کے رویئے کی بات بھی یاد آتی ہے۔ میں اس کی عمل داری میں ہمیشہ قید تنہائی میں ہی رکھا گیا۔ اور جتنا بھی چیخا چلایا کہ مجھے ایک ساتھی تو دے دو لیکن کسی نے بھی مجھے ممنون نہیں کیا۔ اور اگر کوئی ساتھی دیا بھی تو وہ پاگل تھا یا مریض۔ جو میرے لئے تکلیف اور سر دردی کا موجب بنا۔ لیکن انگریزوں کی حکومت میں کچھ دیسی ملازم اس عقیدے کے ضرور تھے جو یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ مجھے مخصی طور پر ضرور پہنچائیں گے یا میری بے حرمتی کریں گے اور انگریز ان کی اس وفاداری سے باخبر ہو جائیں گے تو وہ اس انگریز پرستی کے طفیل دنیاوی زندگی میں ترقی کر لیں گے۔ میرو س ڈھیری کے اس واقعے میں بھی ہمیں ایک ایسے حقیر پولیس افسر سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے مجھے اس قدر مارا پیٹا کہ میری دو پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ آدمی پولیس کا انسپکٹر خوش دل خان تھا جس کے نام کے معنی اچھے دل والے خان کے ہیں۔ تو اچھے دل والے اس خان صاحب نے اپنے لئے انگریزوں کی وفاداری کی فہرست

Marfat.com

میں جگہ تو بنالی لیکن متمدن دنیا کے سامنے یہ کسی اچھے نمونے کا انسان اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکا- خدائی خدمت گاروں سے اس کے سلوک کا اندازہ ناظرین میرے ساتھ اس کے سلوک سے بخوبی لگا سکتے ہیں- انہوں نے ہم سب کو پکڑ لیا اور مردان جیل میں لے گئے- دوسرے دن ہمیں رسالپور پہنچا دیا اور اس جگہ سے ہمیں ہری پور جیل میں لے آئے-

Marfat.com

Marfat.com

پٹھانوں میں اتحاد کی کوشیش

جنگ کے زمانے میں جب جاپانی افواج برما میں پہنچ گئیں تو ہمیں فکر لاحق ہو گیا کہ جاپانی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر ان کی یہی رفتار جاری رہی تو وہ بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے - ہم اپنے قبائل کے لئے متفکر ہو گئے - ہم چاہتے تھے کہ آنے والی مصیبت کا مقابلہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر وطن پرستی کے جذبے کے ساتھ وطن کے حفاظت کے لئے کریں اس کے لئے ضروری تھا کہ ہمارا بھائی چارہ ہو - ہمارا ایک ہی مشورہ ایک ہی صلاح اور ہم سب کا ایک مشترکہ راستہ ہو - ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قبائلی علاقے میں ہم اپنے وفد بھیجیں -

اس وقت سر جارج کنگھم ہمارے گورنر تھے - میں نے انہیں ایک خط لکھا کہ وہ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم اپنے آدمی قبائل میں بھیج دیں - چونکہ انگریز ہمیں اصلاحی اور تعلیمی کاموں کے لئے بھی قبائلیوں میں نہیں جانے دیتے تھے - اس لئے گورنر نے مجھے جواباً لکھا - "وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے - اس پر ہم نے اپنا جرگہ بلالیا - اور گورنر نے بھی اپنے پولیٹیکل ایجنٹوں کو صلاح و مشورے کے لئے بلالیا - ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے چاہے حکومت ہمیں اجازت دے یا نہ دے ہم اپنے وفد ضرور قبائلی علاقوں میں بھیجیں گے - دوسری طرف سرحد کی حکومت نے پولیٹیکل ایجنٹوں کے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں خدائی خدمت گاروں کو یہاں تو کچھ نہیں کہیں گے - لیکن جب ہم قبائلیوں میں آجائیں گے تو ہماری اچھی طرح سے خبر لیں گے - ہم نے آفریدیوں، وزیروں، مسعودوں اور باجوڑ میں اپنے وفد بھیج دئے - ہمارے آفریدیوں میں جانے والے وفود کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں اور وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے - لیکن ہمارے اس وفد کو جو باجوڑ جا رہا تھا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا -

Marfat.com

خدائی خدمت گاروں پر مشتمل اس وفد کے راستے میں ملاکنڈ کے پولیٹیکل ایجنٹ نے رانا زئی کے قبیلہ کے خوانین کو بٹھا رکھا تھا- جب ہمارا وفد سخاکوٹ میں پہنچا تو ان خوانین نے اسے روک لیا-اور واپس چلے جانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ وہ وفد کو اپنے علاقے میں نہیں گھسنے دیں گے-

اس وفد کا رہنما کامدار خان تھا-اس نے ان سے کہا-"دیکھئے خان صاحبان! ہم لوگ خدائی خدمت گار ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کے لئے آئے ہیں- چونکہ ہمارے ملک میں ایک عظیم مصیبت آنے والی ہے اس کے پیش نظر ہم اس مقصد کے لئے آپ کے علاقے میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اور ہم آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور آنے والی مصیبت کا تدارک کریں-" لیکن ان خان صاحبان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی -انہیں تو فرنگی پولیٹیکل ایجنٹ نے بھیجا تھا اور پولیٹیکل ایجنٹ ان کا مطلق العنان حکمران تھا-وہ بس یہی رٹ لگاتے تھے کہ وہ ہمیں اپنے ملک میں نہیں گھسنے دیں گے-

کامدار خان نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہم جب ایک دفعہ قدم آگے رکھ دیتے ہیں تو اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے-اس پر ان خوانین سے بحث سی شروع ہو گئی اور یہ قیل و قال سن کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے- خوانین کا ارادہ تھا کہ وہ زور زبردستی سے خدائی خدمتگاروں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کر دیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عام لوگوں کو ہمدردی خدائی خدمتگاروں کے ساتھ ہے 'اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے ہیں تو عوام ان سے جنگ کرنے کو تیار ہیں-تب انہوں نے خدائی خدمتگاروں کو چھوڑ دیا-

اس کے بعد خوانین میرے پاس مرکز میں آئے میرے ساتھ بھائی چارے 'عزیز داری اور قوم پرستی کی بڑی باتیں کرنے لگے اور انہوں نے میری بہت منت سماجت کی کہ یہ خدائی خدمتگار وفد ملاکنڈ کے راستے باجوڑ کو نہ جائے -دوسرے راستے سے چلا جائے- چنانچہ میں نے کامدار خان کو لکھ دیا کہ وہ ملاکنڈ کا راستہ چھوڑ دیں اور اتمان قبیلوں کے راستے سے باجوڑ چلے جائیں-وفد نے وہ راستہ ترک کر دیا-اور آگرے کے راستے سے اتمان قبیلوں کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کاکاخیل میاؤں (میاں لوگ یا میاں خیل) نے ان کو روک لیا-اور جب ہمارے خدائی خدمتگار ان کے گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے 'تو یہ میاں لوگ باہر نکل آئے اور بغیر کسی وجہ کے ان پر ٹوٹ پڑے- انہیں اٹھا اٹھا کر نیچے پٹکا اور

Marfat.com

بڑی بے دردی سے مارا پیٹا-انہوں نے خدائی خدمتگاروں پر جو روستم اس لئے روا سمجھا کہ کسی طرح پولیٹیکل ایجنٹ کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے خدائی خدمتگاروں کے ساتھ ایسا نامناسب برتاؤ کیا ہے-"کاکاخیل" یہاں لوگوں کی بدقسمتی سے اکثریت ہر دور میں وقت کی حکومت کی وفادار رہی ہے- حتیٰ کہ چترال تک یہی لوگ انگریزی فوجوں کے آگے آگے گئے تھے-اور لوگوں کے مال و دولت لوٹنے میں پیش پیش رہے تھے-

ہمارا یہ وفد جب باجوڑ میں پہنچ گیا تو وہاں بادشاہ گل صاحب نے ان کے لئے بڑی مشکلات پیدا کر دیں-اس نے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ ان کے علاقے میں ایسے لوگ آرہے ہیں جنہوں نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں-یہ لوگ ہندو ہیں اور ان کے قتل کر دینے سے بڑا ثواب ملتا ہے- بادشاہ گل صاحب نے ہمارے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا افغانستان کے وزیراعظم ہاشم خان کے ایماپر کیا تھا-کیونکہ بادشاہ گل انہیں ہاشم خاں کا آدمی تھا اور ہاشم خاں کو انگریزوں نے ایسا کام کرنے کے لئے مجبور کیا تھا اس وقت ہاشم خان افغانستان کا وزیراعظم تھا

ایک موقع پر باجوڑ میں گاؤں کے نوجوان اس بات کے لئے تیار ہو گئے تھے کہ ہمارے خدائی خدمتگاروں کی چاند ماری کر دیں یعنی انہیں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیں-لیکن ان کے بزرگوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذرا صبر سے کام لو-یہ سرخ پوش کہیں جا تو سکتے نہیں-ہم ان سے پوچھ تو لیں-"

جب خدائی خدمتگار گاؤں کے حجرے میں بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟

اس استفسار کا جواب دینے کے لئے عبدالمالک استاد جو ہم پٹھانوں کا ایک عظیم قومی شاعر تھا کھڑا ہو گیا اور بولا ہم لوگ آپ کے بھائی ہیں- خدائی خدمتگار ہیں اور ہمیں باچا خان نے آپ لوگوں کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ اس ملک میں بھیانک مصیبتوں کا بہت بڑا سیلاب آرہا ہے-اس موقع پر ہم سب پشتونوں کو سر جوڑ کر متحد ہو جانا چاہئے اور اس سیلاب کا سدباب کرنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ اس سیلاب میں ہم بہہ جائیں اور تباہ ہو جائیں- عبدالمالک کے ان الفاظ کا ان لوگوں پر خوب اثر ہوا اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بڑی لعنت ملامت کی

بادشاہ گل کی انتہائی مخالفانہ کوششوں کے باوجود یہ وفد بہت زیادہ کامیاب ہوا اور اس نے باجوڑ میں قابل تعریف کام کیا-

Marfat.com

ہاشم خان کا مخالفانہ اور دشمنانہ رویہ یہیں تک محدود نہیں تھا- جب ہم انگریزوں کی کچہریوں پر چھاپے مار رہے تھے تو ہاشم خان نے اسی بادشاہ گل کو حاجی محمد امین کے ہمراہ ہمارے خلاف کام کرنے کے لئے پشاور بھیجا تھا- یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ حاجی محمد امین جلال آباد کے نزدیک افغانستان میں اڈہ نام کے گاؤں میں رہ رہا تھا- اور وہ کسی وقت حاجی صاحب ترنگ زئی کا خلیفہ تھا- ہاشم خان نے اسے ہمارے خلاف انگریزوں کے خاطر بھیجا تھا' تاکہ وہ ہمارے لوگوں پشتونوں کی توجہ انگریزوں کی طرف سے ہٹلوے- حاجی محمد امین جب پشاور پہنچا تو اس نے انگریزوں کی عدالتوں پر خدائی خدمتگاروں کی طرف سے ہو رہے دھلاؤں کے مقابلے میں پیشہ ور عورتوں کے چکلوں پر چھاپے مارنا شروع کر دئے- اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ انگریزوں سے ہٹا کر ادھر مبذول کر دے- لیکن وہ لوگوں کی توجہ جنگ آزادی سے کسی دوسری طرف ہٹا نہ سکا- کیونکہ ہم نے ملک میں کام کیا تھا اور ہمارے لوگوں میں اتنی سوجھ بوجھ آچکی تھی کہ انہیں اسلام کے نام پر گمراہ کرنا اور دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا بادشاہ گل صاحب کے باپ حاجی صاحب آف ترنگ زئی بذات خود بہت اچھے انسان تھے اور ہمارے پکے ساتھی تھے- لیکن بادشاہ گل یہ ساری مخالفت پیسوں اور اقتدار کے لالچ سے کر رہا تھا اس کے لئے گئوشالہ میں دو شیر دار گائیں کھڑی ہوئی تھیں- ایک شیر دار گائے انگریزی حکومت اور دوسری افغانستان-

Marfat.com

ہری پور جیل میں

ہری پور ہزارہ کی سنٹرل جیل میں ہمارے ہزاروں ساتھی قیدی تھے-ان میں سے اکثر رہا ہو گئے اور تھوڑے سے رہ گئے تو پھر مجھے واپس ہری پور جیل میں بھیج دیا گیا- ہم میں اکثر قیدی نظر بند تھے- ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے نکمے بیٹھے نہیں رہیں گے 'کوئی کام کریں گے اور ہم نے حکومت سے کہہ دیا کہ ہمیں نواڑ بننے کا کام دے دیا جائے-ان دنوں بھی فٹ نواڑ بننے کی مزدوری آٹھ آنے دی جاتی تھی ہمارے بہت سے آدمیوں نے بڑے پیسے کما لئے- لیکن یہ پیسے کوئی بھی ساتھی اپنی ضروریات پر خرچ نہیں کرتا تھا- یہ سب پیسے ہم لوگ اپنے مرکز کو بھیجتے تھے-دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ یہاں ہمارے بہت سے خدائی خدمتگاروں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا-

اس موقع پر مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں ایجنسیوں کے متعلق بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں-پشتونوں کے ملک کی تقسیم جو پہلے انگریزوں نے اور اب پاکستان نے جس طریقے سے کی ہے اس کی طرف ایک دوسری جگہ پر بھی میں نے کہیں اشارا کیا ہے- یہاں میں اس مکروہ انتظامی تقسیم کے سلسلے میں صرف ایجنسی کو لیتا ہوں-

صوبہ سرحد کا وہ علاقہ جو گورنر کے زیر اثر قانونی طور پر اسمبلی کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے اسے اضلاع بندوبستی کا نام دیا جاتا ہے-اس علاقے اور آزاد قبائل کے درمیان ایک بفر زون ایجنسیوں کا ہے- یہ علاقہ پولیٹکل ایجنٹ کے براہ راست زیر حکومت ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا نہ تو کوئی قانون ہوتا ہے اور نہ عدالت —— یہاں تک کہ پولیٹکل ایجنٹ کے کسی حکم کے خلاف کسی کو اپیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے-ایجنسیوں کے لوگ بے چارے جاہل 'مظلوم اور اس حد تک معتوب ہوتے ہیں کہ ایک واحد شخص کے حکم سے مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں-

ایجنسی کے لوگوں کو بندوقیں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور انہیں یہ اجازت بھی ہوتی

Marfat.com

ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں - ایک دوسرے کا مال غصب کر لیں اور ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں تاکہ ہمیشہ پولیٹیکل ایجنٹ کے رعب کے نیچے وہ خوشامد کر کے اپنی جان بچانے کے لئے اس کے آسرے پر زندگی بسر کرتے رہیں - اس بفر زون کے قیام کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ اگر قبائلی صوبے میں بندوبستی اضلاع پر کہیں حملہ کریں ڈاکہ ڈالیں تو وہ پہلے ان لوگوں یعنی ایجنسیوں میں سے گزرنے پر مجبور ہوں اور یہ لوگ ایجنسیاں اپنے سینے ڈھال بنا کر ان کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں - یہ لوگ اتنے محکوم اور مظلوم ہیں کہ پولیٹیکل ایجنٹ کا ادنیٰ اشارہ ان کے لئے 'اگر وہ زندگی بسر کرنا چاہیں' کافی ہوتا ہے یہ لوگ آزاد قبائل کی طرح آزاد نہیں ہوتے اور دوسری طرف محکوم صوبے کی مانند قانون اور عدالت کے سائے سے بھی محروم ہوتے ہیں اور اس علاقے میں پہلے انگریزی فوجیں 'بارڈر پولیس اور ریوی اور اب پاکستان کی فوجیں ہمیشہ ڈیرہ ڈالے رہی ہیں -

میں نے جیل خانے میں مرغیاں پالی تھیں - میں مرغیوں سے انڈے نکلوا تا تھا - اور اس کی آمدنی سے جتنے پیسے میرے ہاتھ لگتے تھے وہ میں مرکز کو دیا کرتا تھا مرغیوں کے ان بچوں کو میں اپنے ہاتھ سے خوراک کھلاتا تھا جس وقت ان کے کھانے کا وقت ہوتا تھا وہ میرے اردگرد خود بخود جمع ہو جاتے تھے - میں ان کے لئے ہاتھوں میں آٹا لئے ہوتا تھا - اس لئے کوئی چوزہ میری بغل میں بیٹھ جاتا' کوئی میرے ہاتھوں پر بیٹھ جاتا اور کوئی میرے سر اور کندھوں پر آ بیٹھتا - ایک دن کرنل سمتھ جو جیل خانہ جات کے جرنیل تھے 'ہری پور میں دورے پر آئے - انہوں نے ۱۹۳۰ء میں ہری پور جیل میں سیاسی قیدیوں پر بڑی سختیاں کی تھیں - اور ان پر بڑے مظالم توڑے تھے وہ اس وقت جیل کے سپرنٹنڈنٹ تھے 'لیکن اب بہت بدل چکے تھے اور بہت مخلص مزاج بن گئے تھے - ہمارے ساتھ ان کو بہت انس ہو گیا تھا - حقیقت تو یہ ہے کہ فرنگی انگریز ایک قوم پرست اور بہادر قوم ہے اور انہیں قوم پرستوں اور بہادر آدمیوں سے دل ہی دل میں بڑا انس تھا اور ان کی وہ قدر کرتے تھے - سمتھ صاحب نے جونہی مجھے مرغیوں کے اور چوزوں میں مشغول دیکھا تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں کو رخصت کر دیا اور خود چھپ چھپ کر میرے پیچھے آکر کھڑے ہو گئے اور یہ تماشہ دیکھنے لگ گئے - تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے گڈ مارننگ (سلام سحر) کہا - میں نے جب پیچھے کی طرف دیکھا سمتھ صاحب موجود تھے - انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ "یہ کیا کر رہے ہو؟" میں نے انہیں جواب

Marfat.com

دیا کہ ذرا آپ اس بات کو تو سوچئے کہ اس میں انسان کے لئے ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے دیکھ لیجئے کہ یہ جانور بھی جانتا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ اور اسے حلال کرنے کے لئے پال رہا ہوں' لیکن میں چونکہ اس سے پیار کرتا ہوں' اس لئے دیکھئے یہ کس طرح میری بغل میں اور ہاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بات انسان کے لئے ایک بہت بڑا سبق نہیں ہے؟ جب ہم پیار سے حیوان کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں تو انسان کو' جو اشرف المخلوقات ہے' کیوں اپنا دوست نہیں بنایا جا سکتا؟

یہ سنھ صاحب عجیب و غریب انسان تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان بن گیا تو وہ اس میں ایک دن کے لئے بھی نہیں رہیں گے چنانچہ جس دن پاکستان بننے کا اعلان ہو رہا تھا تو وہ واقعی اسی دن صبح سویرے ریل گاڑی میں سوار ہو کر صوبہ سرحد سے انگلستان روانہ ہو گئے

۱۹۴۵ء میں ہمارے وزیروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے اس صوبے کے لئے وزارت فائدہ مند ہے اور اگر انہوں نے وزارت لے لی تو اور کاموں کے علاوہ ان کے ساتھی سیاسی قیدیوں کو بھی' جو تین تین سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں' رہائی مل جائے گی۔ انہوں نے اپنا ایک وفد گاندھی جی کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جس نے گاندھی جی کو بتایا کہ ہندوستان کے حالات سے صوبہ سرحد کے حالات جدا ہیں۔ گاندھی جی نے انہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں اجازت تو دے دی تھی لیکن انہوں نے وفد سے یہ بھی کہا کہ وہ باچا خان یعنی مجھ سے پوچھ لے۔ چنانچہ ممبروں کا ایک وفد میرے پاس جیل خانے میں آیا اور سارے حالات سے مجھے آگاہ کیا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ انگریز تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اور اگر انہوں نے وزارت قائم کر لی تو ان تمام خدائی خدمتگاروں کو وہ رہا کر دیں گے۔ لیکن وہ مجھے قائل نہ کر سکے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ لوگ ہم سیاسی قیدیوں کی کوئی فکر نہ کریں ہم قید میں تنگ نہیں ہیں۔ اور ایسی وزارت جس کو کوئی اختیار حاصل نہ ہو' اسے لے لینے میں مجھے تو نقصان نظر آتا ہے میری رائے وزارت لینے کے حق میں نہیں تھی' لیکن میں نہیں جانتا کہ آیا اور کارکنوں نے انہیں رائے دی تھی' کیونکہ مارچ ۱۹۴۵ء میں جونہی جیل خانوں سے رہا ہو کر باہر آئے تو ہم نے اپنا کام شروع کر دیا' لیکن حکومت اور اس کے سب پرزے ہمارے خلاف بڑے زور شور سے کام میں منہمک تھے۔ ہمیں اور تنگ

Marfat.com

زیب' کی وزارت نے بڑا فائدہ پہنچایا تھا اور لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ 'مسلم لیگ کی وزارت نے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے۔ اور کانگریس منسٹری یا خدائی خدمتگاروں کی وزارت نے عوام کے لئے کیا کچھ کیا ہے اور نگ زیب تو لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ تو اپنے عہد وزارت میں وہی کچھ کرتا رہا جو کچھ انگریز اسے کہتے تھے اور جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھ میں چنداں اختیارات نہیں تھے پھر بھی اس نے لوگوں کے لئے بہت کچھ کیا تھا اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کی وزارت انگریزوں کی کٹ پتلی نہیں بلکہ لوگوں کی ہمدرد اور محب تھی۔

Marfat.com

انتخابات میں مسلم لیگ کی دھاندلی

میں الیکشن کے حق میں نہیں تھا- میں کہتا تھا کہ ہم الیکشن چاہے جیت بھی لیں اور ہماری وزارت بھی بن جائے' لیکن جب ہم لوگوں کے لئے کچھ کر نہیں سکتے تو ہم ایسی وزارت لے کر کیا کریں گے؟ ہم تو وزارت حکومت کرنے کے لئے نہیں لیتے ہم اگر وزارت لیتے ہیں تو خدمت خلق کے لئے لیتے ہیں-

کلکتہ میں ورکنگ کمیٹی اور پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ تھی میں بھی اس میں شامل تھا- میں نے صوبہ سرحد کے مفصل حالات اور واقعات بیان کرنے کے بعد گاندھی جی سے کہا کہ میں اس الیکشن میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا- گاندھی جی نے اس بات پہ مجھ سے اتفاق کیا- پارلیمنٹری بورڈ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کسی طرح الیکشن میں حصہ لینے کے لئے راضی کرے- لیکن وہ مجھے آمادہ اور رضامند نہ کر سکا- ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد میں اپنے گاؤں چلا گیا اور اپنا کام کرتا رہا- الیکشن سے میرا اتفاق نہیں تھا اپنی جماعت کے لئے کام کرتا رہا اور ملک میں تابڑ توڑ دورے کئے رہا تھا اور حکومت کے پرزوں کا میں خوب اچھی طرح سے مطالعہ بھی کر رہا تھا- حکومت ہماری مخالفت میں مشغول تھی- لیکن مجھے اس بات کا پتہ لگا کہ حکومت نے اسلامیہ کالج پشاور اور اسی طرح کے اسکول کالج صوبہ سرحد بھر میں بند کر دئے ہیں اور طالب علموں کو مسلم لیگ کے پروپیگنڈے کے لئے پلر میدان میں لا کھڑا کیا ہے اور انگریزوں کی بیویاں بھی میں نے دیکھ لیں کہ وہ گھوم رہی تھیں اور لوگوں سے کہہ رہی تھیں-"ہم آپ کے پاس آئی ہیں- ہمیں دو پٹہ دان دیجئے اور ہمارا دو پٹہ ووٹ ہے-" الیکشن کے پروپیگنڈے کے لئے بیگم شاہنواز کی لڑکی بھی دوسری کئی لڑکیاں اپنے ساتھ لے کر پنجاب سے سرحد میں آگئی تھی- اور پنجاب کے علاوہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء

Marfat.com

کلکتہ کے اسلامیہ کالج کے لڑکے اور ہندوستان کے دیگر مقامات کے کارکن اور لیگی رہنما بڑی بھاری تعداد میں صوبہ سرحد میں پہنچ گئے تھے - اس کے علاوہ حکومت اور مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد کے گدی نشین پرہیز گار سب کو کوٹھریوں سے نکال کر الیکشن کے میدان میں جھونک دیا تھا - وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے کر دیئے گئے تھے - میں نے جب انگریزوں اور ان کی میموں کی طرف سے مسلم لیگ کے لئے الیکشن میں اتنی جدوجہد دیکھی تو میرا خیال بدل گیا - الیکشن میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تھا کہ میں نے الیکشن کے لئے کام کرنا شروع کر دیا - یہ الیکشن متحدہ ہند کے عام آخری انتخابات ۴۶-۱۹۴۵ء ہندوستان اور پاکستان کے مسئلہ پر تھا - ہندو اور مسلمان کے سوال پر 'مندر اور مسجد اور اسلام و کفر کے نام پر تھا - مسلم لیگی لوگوں سے کہتے تھے کہ مسجد کو ووٹ دیتے ہو یا مندر کو ؟ ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کی طرح پٹھان دقیانوسی خیالات کے نہیں تھے - ان میں سیاسی شعور موجود تھا - انہیں سوجھ بوجھ حاصل تھی انہیں کوئی اسلام کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتا تھا' کیونکہ وہ اسلام سے بخوبی واقف تھے اور اس کی تمام تر وجہ یہ تھی کہ صوبہ سرحد میں ایک قومی تحریک تھی - اور اس تحریک نے ملک و ملت کے لئے بڑی قربانیاں اور شاندار خدمات سرانجام دی تھیں - باقی ہندوستان کے مسلمانوں میں نہ تو کوئی قومی تحریک تھی اور نہ ہی کسی نے ایسی قومی تحریک میں کوئی کام کیا تھا -

ووٹوں کے وقت حکومت نے مسلم لیگ کے لئے بہت کوشش کی اور خدائی خدمتگاروں کی بڑی سخت مخالفت کی ' لیکن خدا کے فضل سے مسلم لیگ نے شکست کھائی اور ہم لوگ بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے -

حکومت اور اس کے کل پرزوں نے ہمارے خلاف بڑا سخت کام کیا تھا اس قدر کام اور پروپیگنڈہ خود مسلم لیگیوں نے نہیں کیا تھا حکومت کا یہ کام ہمیں بڑا مکروہ دکھائی دیتا تھا ہم نے صلاح و مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم وزارت نہیں بنائیں گے اور ہم نے وزارت بنانے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم تب تک وزارت بنانے کے لئے تیار نہیں جب تک حکومت ہمیں یہ اجازت نہ دیدے کہ جن سرکاری ملازموں نے الیکشن میں ہمارے خلاف حصہ لیا ہے اور ملازمت کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے ان پر ہم مقدمے چلائیں اور مجرموں کو مناسب سزائیں دیں ہمارے اس فیصلے کی خبر جونہی ڈاکٹر صاحب کو ملی ' انہوں

Marfat.com

نے اس سے سردار پٹیل کو آگاہ کر دیا' کیونکہ ان کی یہ رائے تھی' کہ وزارت قائم کر لینی چاہئے۔

سردار پٹیل نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اس مسئلہ کے حل کے لئے سرحد بھیج دیا اور ہماری پشاور میں میٹنگ ہوئی۔ ہم نے مولانا صاحب سے صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ جن لوگوں نے بے ایمانی کی ہے' ان کے بارے میں جب تک حکومت ہماری شرط نہ مان لے اس وقت تک ہم وزارت نہیں بنائیں گے۔ مولانا صاحب واپس دہلی چلے گئے اور وہاں سے وائسرائے ہند سے ایک خط لے کر پھر صوبہ سرحد آ گئے۔ اس خط میں وائسرائے نے کچھ گول مول طریقے سے ہماری یہ شرط مان لی تھی۔ اب ہم نے اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورے کر کے اس شرط پر وزارت بنالی کہ اختیارات ایک مرکزی کمیٹی کے ہاتھ میں رہیں گے۔

Marfat.com

Marfat.com

ریفرنڈم اور کانگرس کی بے رخی

جولائی ۱۹۴۶ء میں ہندوستان کے لئے آئین بنانے کی غرض سے میں اور مولانا ابوالکلام آزاد خدائی خدمت گاروں اور فرنٹیر اسمبلی کی طرف سے آئین ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ ہمارے صوبے کے تین ممبر تھے۔ دو تو ہم تھے اور تیسرا ممبر ضلع ہزارہ کا باشندہ تھا۔ الیکشن میں صرف یہی ضلع ہزارہ تھا جس میں مسلم لیگ کو ووٹ ملے تھے۔ اور مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ الیکشن میں اس قدر واضح اکثریت حاصل کر کے جس میں واضح مسائل پر ہم نے مقابلہ کیا تھا اور ایسے حالات میں جبکہ مسلم لیگ کو حکومت کی بھی پشت پناہی حاصل تھی اور ہندوستان کے تمام مسلم لیگی لیڈر اور ساری طاقت اور چالاکی ہمارے خلاف استعمال کی گئی تھی' ہماری کامیابی کا مطلب اس کے سوا اور کیا نکلتا ہے کہ ملک کی اکثریت ہماری پشت پر کھڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب ہماری نمائندگی کے سلسلے میں صوبہ سرحد میں پھر سے ریفرنڈم کا حکم ہم پر ٹھونس دیا گیا تو ہمیں قدرتی طور پر اس صریح ظلم کے خلاف غصہ آیا۔ اور ہم نے ریفرینڈم میں حصہ نہ لینے اور اس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا' تاکہ دنیا کو ہمارے قہر' غصے اور ہمارے ساتھ کی گئی بے انصافی کا علم ہو جائے۔

وائسرائے کا یہ حکم نہ صرف منطق اور دلیل کے خلاف تھا' بلکہ ایک امتیازی یا استثنائی سلوک بھی تھا جو پشتونوں سے انگریزوں نے جاتے وقت روا رکھا' جسے ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے' جہاں سارے ہندوستان میں ہر ایک صوبے کے ان نمائندوں سے جو اسمبلی میں موجود تھے پوچھا گیا کہ آیا وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں' وہاں صوبہ سرحد کی اسمبلی کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ صوبہ سرحد کی اسمبلی اور اس

Marfat.com

اسمبلی کے ممبروں کی نمائندگی اور نمائندہ حیثیت کو انگریزوں نے پس پشت ڈال دیا- یہ پشتونوں کی پوری ملت کی بے حرمتی تھی جسے ہم کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے-

مجھے افسوس اور دکھ اس بات سے ہے کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے بھی ہمارے لئے کوئی غیرت نہ کھائی اور ہماری حقیر سی امداد کے لئے بھی' جس کی ہمیں ان سے توقع تھی' ہمارے آڑے نہ آئی- اس نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا' حالانکہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی سنگ دلی' بے رخی اور بے حسی آسام کے صوبے کے حق میں ایسی نہیں تھی' جبکہ وہاں کے وزیر اعظم گوپی ناتھ باردولائی نے گروپ بندی ماننے سے انکار کر دیا تھا کرپس لارنس پلان ۱۹۴۶ء اور شور مچا تھا- باردولائی کی چیخ وپکار اور شور کی وجہ سے کانگریس اس بات پر آڑ گئی تھی اور گروپ بندی کی وہ اسکیم نہیں مانی تھی- حالانکہ میں اس کا مخالف نہیں تھا- جب مجھ سے گاندھی جی نے دریافت کیا تو میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تقسیم کی بجائے ہر ایک اسکیم اچھی ہے- اس حال میں اور ایسے سلوک کے بعد ایک پٹھان کی حیثیت میں ہم سے یہ پوچھنا بے محل تھا کہ آیا ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں- چونکہ کانگریس نے' جو ہندوستان کی نمائندہ جماعت تھی ہمیں نہ صرف اپنے سے دور ہی پھینک دیا تھا- بلکہ ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا- ان سے ملنا تو ہماری پٹھانی غیرت اور اخلاقیات و روایات کے لئے ایک طرح کی موت تھی- رہ گیا پاکستان کا مسئلہ تو اس مسئلے پر تو ہم نے مسلم لیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا تو پھر ہمیں نئے سرے سے سر دردی کرنے کی کیا ضرورت تھی- ہم نے اسی وجہ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ریفرنڈم کرانے کی تجویز رکھتا ہے تو بسم اللہ' وہ میدان میں آئے اور "پشتونستان اور پاکستان" کے موضوع پر ریفرنڈم کر لیا جائے-

ہمارے اس مطالبے پر بھی کسی نے کان نہ دھرے- ہم پر ریفرنڈم ٹھونس دیا گیا' چونکہ ہم ریفرینڈم میں حصہ نہیں لے رہے تھے' لہٰذا مسلم لیگ کے لئے میدان صاف تھا- ان سے جو چالاکی' فریب اور زور زبردستی ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی لیکن پھر بھی وہ ایک سو میں سے پچاس اعشاریہ ایک ووٹ ہی مر مر کر لے سکی' جو ایک ملت کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے کسی وجہ سے کافی نہیں تھے- انگریزوں نے نہ صرف ایک دیانت دار

Marfat.com

حکومت کی مانند اپنے آپ کو اس ریفرینڈم میں غیر جانبدار نہ رکھا بلکہ انہوں نے خود براہ راست ووٹوں میں اپنے پولیس اور فوج کے ذریعے حصہ لیا اور اپنی فوج اور پولیس کے ملازم جوق در جوق پولنگ اسٹیشنوں پر بھیجے کہ وہ ان لوگوں کے نام سے جعلی ووٹ ڈالیں جنہوں نے ریفرنڈم میں حصہ نہیں لیا تھا۔

اس سلسلے میں میرے ایک جیل خانے کے ساتھی کرنل بشیر نے ہری پور ہزارہ کے سنٹرل جیل میں ۱۹۸۵ء میں مجھے ایک داستان سنائی جبکہ وہ فوج میں تھا اور اسکی کمپنی بنوں کے قریب لتمبر میں تعینات تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تین مرتبہ اپنی کمپنی اور اس کے جوانوں کو پولنگ اسٹیشن پر لے گیا تھا تاکہ پاکستان کے حق میں ان سے جعلی ووٹ ڈلوائے۔ کرنل بشیر کو بعد میں محکمہ انٹیلی جنس میں ایک بڑا افسر مقرر کر دیا گیا تھا۔ جو آخر میں پنشن یافتہ ہو گیا تھا۔ ایک جرم میں دو سال کے لئے قید کی سزا ہوئی تھی۔ اور وہ میرے ساتھ ایک ہی جیل میں رہتا تھا۔

سرحد کے ریفرنڈم کے سلسلے میں لاکھوں کی تعداد میں سرخ پوشوں یعنی خدائی خدمت گاروں کے ووٹ سرکاری ملازموں اور ان کے خوشہ چینوں یعنی مسلم لیگیوں نے جعلی طور پر بھگتائے تھے۔ کیونکہ سرخ پوشوں نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ چنانچہ خان امیر محمد خان کا جعلی ووٹ بھی ایسے ووٹوں میں شامل تھا۔ اور میرا جو اندیشہ تھا وہ درست ثابت ہوا۔

پاکستان کی اٹھارہ سالہ زندگی میں مجھے پندرہ سال جیل خانوں میں رکھا گیا ہے اور پھر ایسی قید میں جو خدا کسی کو نہ دکھائے' آمین! ——— اس عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں خدائی خدمت گار موت کے گھاٹ اتار دئے گئے۔ قید و بند میں مبتلا کئے گئے۔ اور ان کے ساتھ ایسے ناروا سلوک ہوئے ہیں اور ان پر ایسے مظالم توڑے گئے ہیں۔ جنہیں انسانیت برداشت نہیں کر سکتی۔

ہندوستان کی اس آئین ساز اسمبلی کا مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا۔ میں نے مسلمان ممبروں سے اس مسئلے پر بڑی بحث کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آیئے! آئین ساز اسمبلی میں چلے جائیں گے اور اس میں یہ تجویز پیش کر دیں گے کہ ہندوستان میں سوشلسٹ جمہوریت قائم کرنا چاہئے سنیز اگر ہندوؤں نے ہماری یہ بات مان لی تو ہم فیڈریشن میں رہ جائیں گے اور

Marfat.com

اگر انہوں نے ہماری یہ بات نہ مانی تو ہم اپنے اپنے صوبوں میں فیڈریشن سے جدا ہونے کی تجویزیں منظور کر لیں گے۔ یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ فیڈریشن سے جدا ہو جائیں اور کہ ہمارا صوبہ ایک خود مختار ریاست بن جائے' لیکن مسلمانوں پر ایک ایسی چال چلائی گئی تھی کہ وہ کسی قسم کی بات پر غور و فکر کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے اور مجھے تو یہ ایک مستقل جواب دیتے تھے کہ "تم ہندو ہو۔"

Marfat.com

کیبنٹ مشن اور ہندوستان کی عبوری حکومت

اس دوران لارڈ پیتھک لارنس وزیر ہند کی رہنمائی میں لندن سے ایک کیبنٹ مشن آیا تھا اور کانگریس کے اس دیلی کمشن کا جوان سے بات چیت کرنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ ہم چار آدمی کانگریس کے تھے۔ ابوالکلام آزاد' جواہر لال سردار پٹیل اور میں ـــــ اور چار آدمی مسلم لیگ کے تھے۔ جناح' لیاقت علی' نواب اسماعیل اور عبدالرب نشتر ـــــ بات چیت شملہ میں شروع ہوئی۔ دوسرے دن بات چیت کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ لوگ کیبنٹ کے ممبروں سے یہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہندوستان کو آزاد کرنے اور اپنی فوجیں ہندوستان سے نکالنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں ؟ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے دوسری باتوں میں اصلی مطلب گول مال ہو جائے۔

دوسرے دن جب ہم گفت و شنید کرنے کے لئے گئے اور اجلاس شروع ہوا تو جواہر لال نے یہ دونوں باتیں پیش کر دیں۔ وائسرائے لارڈ ویول نے پنڈت جی سے کہا۔ "ہم تو ہندوستان چھوڑتے ہیں' لیکن یہ تو بتایئے کہ کس کے حوالے کریں ؟ ـــــ آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں۔"

اس بات کا اثر مسٹر جناح پر بھی ہوا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اچھی بات ہم گھر میں فیصلہ کر لیں گے۔ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ جناح صاحب اور جواہر لال اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ایک دو گھنٹے کے بعد باہر آئے اور فیصلہ اس بات پر ہوا کہ تین آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے لئے ایک ممبر کانگریس منتخب کرے۔ ایک مسلم لیگ۔ اور ان دونوں کا سرپنچ دونوں کے اتفاق رائے سے مقرر کیا جائے۔ جو فیصلے ہم آپس میں متفقہ طور پر کر لیں گے وہ تو ٹھیک ہوں گے ـــــ اور جن باتوں پر ہمارا اختلاف پیدا ہو جائے گا ان کا فیصلہ تین آدمیوں کی یہ کمیٹی کرے گی۔

اس کمیٹی کے ممبران کو منتخب کرنے کے لئے دو دن مقرر کر دیئے گئے۔ تیسرے دن

Marfat.com

جب ہم آپس میں اکٹھے ہوئے اور لارڈ پیتھک لارنس نے 'جو نہایت شریف انگریز تھا' جب جناح صاحب سے پوچھا تو جناح صاحب اس سارے فیصلے سے ہی منکر ہو گئے - اس وقت میں نے نشتر صاحب کو اشارہ کیا وہ میرے پاس آ گئے - میں نے ان سے کہا کہ جناح صاحب سے کہیے کہ وہ کھیل نہ بگاڑیں کیونکہ گاندھی جی نے میرے سامنے میرے ساتھیوں سے کہا ہے کہ مسلمان جو کچھ بھی مانگیں وہ انہیں دے دو - لیکن فیصلہ اتفاق رائے سے کر لو -

نشتر صاحب چلے گئے - جناح صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے - لیکن جناح صاحب نے ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہ دیا - نشتر صاحب کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور وہ سارا معاملہ کھچڑی ہو گیا - حقیقت یہ تھی کہ انگریز ہندو مسلم اتحاد و اتفاق نہیں چاہتے تھے اور ہندوستان کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے تھے -

جب کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان باہمی فیصلہ نہ ہو سکا تو کیبنٹ مشن نے اپنا فیصلہ دے دیا اور اپنے فیصلے کا اعلان کر کے مشن واپس چلا گیا - اور وائسرائے نے ہندوستان کی عبوری حکومت قائم کر لی اور انگلستان کی پارلیمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ چھ مہینے کے بعد ہم ہندوستان خالی کر دیں گے - بعض اختلافات کی بنا پر کانگریس نے عبوری حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا - مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کانگریس نے حکومت قائم نہ کی تو مسلم لیگ کر لے گی - لیکن وائسرائے نے مسلم لیگ کی یہ تجویز نہ مانی - کانگریس نے عبوری حکومت بنالی - جب یہ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو میں نے جواہر لال سے کہا کہ "صوبہ سرحد کے ان قبائلیوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں - دراصل وہ روپیہ خود انگریز 'قبائل کے سردار 'ملک اور نوکر چاکر کھا جاتے ہیں - صوبہ اور اس کے باشندے اس سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں اس طرح اس قدر بھاری بھر کم خرچ کے باوجود ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے - اب جبکہ اختیار ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے 'آپ یہ علاقہ بچشم خود دیکھ لیں - ان لوگوں سے مل لیں - یہ لوگ بڑے عاجز مظلوم ہیں اور ان کا ملک اکثر پہاڑی پہاڑ ہے اور اگر تھوڑا سا احسان بھی ان کے ساتھ ہو جائے اور ان کی "قوت لایموت" کے واسطے کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لئے انتظام ہو جائے تو اس کا لوگوں پر بہت اچھا اثر ہو گا اور یہ گڑبڑ جو کبھی کبھار ہو جایا کرتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا -

Marfat.com

نہرو کی صوبہ سرحد آمد

جواہر لال کو میں نے اس بات پر راضی کر لیا اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ صوبہ سرحد میں آئیں گے اور ضرور ان لوگوں اور اس علاقہ کو دیکھیں گے۔ اور جس قدر بھی اس سے ہو سکے گا وہ ان لوگوں کے لئے کریں گے، لیکن جس وقت جواہر لال نے سرحد جانے کا ارادہ کیا تو وائسرائے نے اس کی مخالفت کی اور انہیں قبائلی علاقے میں جانے سے منع کیا۔ پنڈت نہرو نے وائسرائے سے کہا کہ انہوں نے اس علاقے میں جانے کا وعدہ کر رکھا ہے اس لئے وہ ضرور جانا چاہتے ہیں۔

وائسرائے سمجھ گئے کہ نہرو ٹلنے والا انسان نہیں تو انہوں نے نہرو کے ارادے کی مخالفت تو ترک کر دی لیکن ان کے پیچھے سرحد کے گورنر کو لگا دیا۔ اس وقت سرحد کا گورنر سر اولف کیرو تھا۔ وہ مسلم لیگ کا حمایتی تھا۔ وہ پنڈت نہرو سے ملنے کے لئے دہلی گیا اور ان کے پاس تین دن اور تین رات ٹھہرا، لیکن اس نے نہرو جی کی اس بات سے اتفاق نہ کیا۔

دہلی سے واپس آکر گورنر سر والف کیرو نے تمام پولیٹکل ایجنٹوں کو ہمارے خلاف بری طرح بھڑکا دیا۔ جب نہرو جی صوبہ سرحد میں تشریف لائے تو ہم نے قبائلی علاقہ کا دورہ شروع کر دیا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے لئے کتنی مشکلات پیدا کی گئی ہیں اور وہ سب مشکلات جو ہمارے راستے میں حائل تھیں سب گورنر کیرو کی پیدا کی ہوئی تھیں۔ ہم نے پہلے پہل اپنا دورہ وزیرستان سے شروع کیا۔ وزیرستان کے تمام پولیٹکل ایجنٹ انگریز تھے۔ ان میں اتنی شرافت تھی کہ انہوں نے ہمارا مقابلہ شریفانہ طریقے سے کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت میران شاہ میں جرگہ شروع ہو گیا اور ہم نے جرگے کو مخاطب کیا تو جرگہ اٹھ کھڑا ہوا

Marfat.com

جرگے نے یہ بات کہی کہ وہ ہندوؤں کی حکومت نہیں چاہتے اور جب ہم میران شاہ سے زرمک پہنچے تو ہاں بھی صرف یہی کچھ ہوا۔ پھر ہم وہاں سے دانا گئے تو وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر جب ہم لوگ وہاں سے واپس دوبارہ میران شاہ آئے تو ان تمام پولیٹکل ایجنٹوں سے، جن کے ساتھ ریذیڈنٹ بھی موجود تھا، جواہر لال نے پوچھا کہ یہ کروڑوں روپے ملک پر خرچ ہو رہے ہیں، اس روپے سے آپ لوگوں نے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے؟ —— ان کے پاس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انہوں نے پٹھانوں کے لئے بہت کچھ کیا ہے انگریز میری اس بات پر قدرے خوش ہو گئے۔ لیکن جونہی اپنی اس بات کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے پشتونوں کو اس قدر پست ہمت اور بزدل کر دیا ہے اور ان کو اتنا زیر دست بنا دیا ہے کہ اگر پٹھان کو پیسہ دکھلا دو تو چاہے ان کا ملک، اسلام اور قوم سب کچھ دریابرد ہو جائیں، انہیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بلا سے یہ سب کچھ بہہ جائے، ڈوب جائے، لیکن ان کے پیسے بن جائیں۔

میری یہ بات سن کر وہ انگریز، جو میری پہلی بات سے خوش ہو گئے تھے بہت خفا ہو گئے چنانچہ جس وقت ہم سب کھانا کھانے بیٹھے تو دانا کے ایک نوجوان پولیٹکل ایجنٹ نے مجھ سے پوچھا "کیا واقعی ہم نے اس ملک کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے؟"۔

میں نے اسے جواب دیا "بخدا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور اگر کہیں کچھ کیا ہے تو وہ مجھے دکھا دو۔"

میرے اس جواب سے اس پر کیا گزری ہو گی، اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں اور ہمیں فرصت بھی نہیں تھی ہم وہاں سے ٹانک چلے گئے اور ٹانک سے جنڈولہ گئے اس جگہ کا پولیٹکل ایجنٹ ایک ہندو تھا جس کا نام دیوان شوسرن لال تھا یہاں قبائلیوں نے ہمارا بڑا شاندار استقبال کیا ہمارے پاس دنبے، بترے لے آئے اور ہمارے اور ان کے درمیان جتنی باتیں ہوئیں انہوں نے سب باتوں کی تائید کی اور ان سے اتفاق بھی ظاہر کیا۔ پھر جب ہم جنڈولہ کی طرف جا رہے تھے تو جگہ بہ جگہ قبائلی ہمارے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے تھے اس جگہ سے چل کر ہم لوگ واپس پشاور آ گئے۔

دوسرے دن ہم خیبر چلے گئے اس جگہ کا پولیٹکل ایجنٹ مسلمان تھا۔ صاحبزادہ خورشید اس کا نام تھا جب پہلے پہل ہمارا قافلہ جمرود پہنچا تو سڑک سے تھوڑے سے فاصلے پر

Marfat.com

آفریدی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھوں میں جوتیاں لی ہوئی تھیں اور ان جوتیوں کو ہماری طرف کر کے ہلا رہے تھے پھر ہم لوگ طورخم تک چلے گئے اب پاک افغان سرحد ہے تر خم میں جب چائے پینے کے بعد ہم لوگ لنڈی کوتل پہنچے تو لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم پر پتھر برسا رہے تھے - پولیٹکل ایجنٹ کی موٹر ہم سے آگے تھی - اس نے فوراً اپنی موٹر ٹھہرا لی اور وہ موٹر سے اتر پڑا - سپاہی اس کے ساتھ تھے - ان لوگوں پر بندوقیں چلادی گئیں اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے - پتھراؤ سے ہماری موٹر کے شیشے ٹوٹ گئے لیکن ہم میں سے کسی کو کوئی چوٹ نہ آئی اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو پتھر لگا - صرف ہمارے ساتھ ایک انگریز تھا - وہ اتر گیا تھا کیونکہ تصویر فوٹو لینا چاہتا تھا اسے ایک پتھر ضرور لگا تھا -

ہمارا دوسرے دن کا دورہ ملاکنڈ ایجنسی کے لئے تھا - ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ملاکنڈ کا پولیٹکل ایجنٹ پشاور آیا تھا اور اس نے گورنر سے ملاقات کی تھی - یہ آدمی انگریزوں کا ایک بہت بڑا بے ضمیر ایجنٹ تھا اس پر کمینہ پن ختم تھا - اس کا نام شیخ محبوب علی تھا - اسی شیخ محبوب علی کے ہاتھوں ہماری قوم نے بڑی تکالیف اور روحانی عذاب اٹھائے ہیں اور وہ آدمی ہے جو کابل میں برطانوی سفیر ڈیوڈ ہمفری کی چاکری میں اس لئے نام پیدا کر چکا تھا کہ افغانستان میں امان اللہ خان کی حکومت کا تختہ الٹنے اور بچہ سقہ کو برسر اقتدار لانے میں سرگرم کار رہا تھا ہمارے ساتھ جو ناخوشگوار سانحے ہوئے وہ اسی کے طفیل سے تھے -

ان واقعات میں ایک واقعہ ملاکنڈ کا بھی تھا -

انسان غرور نخوت میں خدا کو بھول جاتا ہے اور زعم میں نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتا ہے' لیکن خدا کی بے آواز لاٹھی اور قہر و غضب کو نہیں بھولنا چاہیے - دنیا جانتی ہے کہ آج اسی محبوب علی کے گھر میں گدھے رینگ رہے ہیں - آخری زندگی میں وہ اس قدر بے عزت اور غمزدہ ہوا کہ اس کی حالت دیکھ کر سنگدل سے سنگدل انسان کا دل بھی پارہ پارہ ہو جاتا تھا - اس گھر میں صرف دو لڑکیاں اور ایک عورت تھی - اس کی ایک لڑکی کو اس کے بھتیجے نے اس گھر کے اندر اس کے سامنے ہی پستول سے اڑا دیا - دوسری لڑکی اپنی موت مر گئی اور اس کی عورت اس کا سارا مال و متاع لے کر بھاگ گئی - آج ملک میں اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے - نہ اس کی کوئی اولاد ہے' نہ کوئی گھر در ہے اور نہ ہی نام ناموس - اور خود بھی خدا کو حساب دینے کے لئے دنیا سے اٹھ چکا ہے -

Marfat.com

تو ہم شب را بسر کے می بری اے شمع کم فرصت
گرفتیم سوختی پروانہ آتش پہ جائے را

ہاں تو ملاکنڈا ایجنسی کا پولیٹیکل ایجنٹ یہی شیخ محبوب علی تھا۔ میں نے پنڈت جواہر لال سے پوچھا کہ ملاکنڈ جائیں گے؟۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پروگرام تو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیرستان میں تو ہمارے ساتھ فوج تھی لیکن جب خیبر جا رہے تھے تو فوج نہیں تھی، پولیس تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہم ملاکنڈ جائیں گے۔ لہٰذا فوج کا کچھ انتظام کیجئے اور اگر آپ فوج کا انتظام نہیں کر سکتے تو ہم اپنے خدائی خدمتگاروں کا انتظام کر لیتے ہیں اور دیکھئے کہ پولیس کلیہ موجودہ انتظام ہرگز منظور مت کیجئے۔

ڈاکٹر صاحب نے کہا "بہت اچھا۔ میں ضرور فوج کا انتظام کروں گا۔" لیکن جب ہم رسالپور میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پولیس کھڑی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں بہت خفا ہوا۔ ایک دفعہ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان جواہر لال ڈاکٹر خان صاحب اینڈ پارٹی کے ساتھ بالکل نہ جاؤں۔ پھر میں سوچا کہ جواہر لال تو میری خاطر ہی آئے ہیں، لہٰذا انہیں تو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا مجبوراً میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ملاکنڈ میں اپنے مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم قلعے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اسی اثناء میں ہم نے کچھ نعرے سنے کہ یہ شیخ کا لشکر ہے اور اسی وقت کے مطابق آیا ہے جو اسے بتایا گیا تھا، لیکن ہم تو ان کی آمد سے بیشتر پہنچ گئے تھے۔

اسی ایجنسی ملاکنڈ میں بھی ہمارے خدائی خدمتگار تھے۔ راحت خان ہمارا ایک ممتاز کارکن رات کو ہمارے پاس آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ شیخ محبوب علی نے بہت سے لوگ بلائے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بہت احتیاط اور غور و فکر سے کام لیں۔ ہم نے رات تو ملاکنڈ میں گزار دی۔ شیخ محبوب علی ہمارے ڈاکٹر خان صاحب کی بڑی خوشامد اور چاپلوسی کرتا رہا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی یہی کمزوری تھی کہ وہ خوشامد اور چاپلوسی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ جب صبح صادق نمودار ہوئی اور ہمارے روانہ ہونے کا وقت ہونے لگا تو میرے پاس ایک خدائی خدمتگار آیا اور اس نے خبر دی کہ ہم لوگوں کے آگے بہت سے لوگ راستے میں

Marfat.com

کھڑے کئے گئے ہیں لہٰذا روانہ ہونے سے پہلے ہمیں اپنا انتظام کر لینا چاہئے - میں نے ڈاکٹر صاحب کو علیحدہ کر کے یہ بات کہہ دی -

شیخ دور کھڑا تھا اور ہمیں دیکھ رہا تھا - پھر وہ آہستہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور ان سے دریافت کرنے لگا کہ کیا بات ہے؟ - ڈاکٹر صاحب نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا - "کیا آپ میرے باپ نہیں ہیں - میں پشتون نہیں ہوں کیا؟ میں ایسا حرامی ہوں کہ آپ سے غلط برتاؤ کروں گا؟"

ڈاکٹر صاحب نے ہم سے کہا چلو چلیں - ڈاکٹر صاحب نے شیخ کے بھروسے میں آکر پولیس گارڈ کا انتظام بھی نہ کیا اور چل پڑے - شیخ آگے آگے جا رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے روانہ ہوئے - قلعہ کے دروازے میں انگریز جواہر لال کے لئے کھڑے ہوئے تھے - ہم نے موٹر روک لی - انہوں نے جواہر لال سے خدا حافظ کہا - اس اثناء میں شیخ محبوب علی وہاں سے رفوچکر ہو گیا - ہم جب قلعے سے باہر نکلے اور انگریزوں سے تھوڑا اس طرف ہوئے تو لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے ہم پر پتھروں کا مینہ برسانا شروع کر دیا - انہوں نے سڑک پر لاری کھڑی کر رکھی تھی اور سڑک بند کر دی تھی - ہم پر پتھر برس رہے تھے - ایک پتھر میری پیٹھ میں لگا - میں قدرے بے ہوش ہو گیا ہمارے ساتھ ایک جمعدار موٹر میں آگے بیٹھا ہوا تھا - وہ پتھروں سے بچنے کے لئے سیٹ پر جھک گیا تھا - اس کے پاس پستول تھا' جس پر ڈاکٹر صاحب کی نظر جا پڑی - ڈاکٹر صاحب نے فوراً وہ پستول اس کے تاش سے باہر کھینچ لیا اور موٹر سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور جو لوگ ہمیں پتھر مار رہے تھے انہیں آواز دی کہ وہ ہٹ جائیں اور باز رہیں ورنہ گولی چلا دی جائے گی - لوگوں نے پستول دیکھا تو ہٹ کر دور چلے گئے - آگے لاری کھڑی تھی ڈاکٹر صاحب نے پھر وہی پستول ڈرائیور کو دکھایا اور بولے "راستہ چھوڑ دو' ورنہ ابھی تمہیں جہنم رسید کرتا ہوں -"

ڈرائیور بھی لاری کے راستے سے ہٹ گیا - اس طرح ہم اس مصیبت سے بچ گئے - ہمیں قلعے کے دروازے کے اندر پتھر مارے گئے - انگریز ہمیں پٹتے دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے' حالانکہ ہمارے ساتھ مرکزی حکومت کے بڑے وزیر جواہر لال تھے جن کے ہاتھ میں قبائلی علاقے کی باگ دوڑ تھی اور صوبہ سرحد کے وزیر اعظم اترے اور ٹھہر گئے' کیونکہ ہماری موٹر کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اور ہم زخمی ہو گئے تھے - ہم لوگ موٹر سے اتر

Marfat.com

پڑے۔ اتنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری گارڈ ہمارے سامنے آگئی ہے۔ سردان کاڈپٹی کمشنر جس کا نام کرٹس تھا وہ ہماری اس گارڈ کا انچارج تھا اور اسے حکومت نے ہماری حفاظت کے لئے مقرر کیا تھا وہ ہمارے پاس آیا اور ڈاکٹر صاحب کے آگے کچھ عذر معذرت کرنے لگا۔ حالانکہ وہ اور شیخ باہمی صلاح و مشورے سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔

جب ہم اس جگہ سے روانہ ہو رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اپنی گارڈ کو حکم دیں کہ ان کی ایک لاری ہم سے آگے رہے اور دوسری ہمارے پیچھے چلے اور جب سڑک پر آدمیوں کو دیکھے تو آگے والی گاڑی ٹھہر جائے' سپاہی نیچے اتر جائیں اور ان لوگوں کو منتشر کر دیں اور اگر منتشر نہ ہوں تو ان پر لاٹھی چارج کریں اور اگر پھر بھی منتشر نہ ہوں تو ان پر یہ دوسری لاری گولیاں چلا دے۔ خیر جب ہم ملاکنڈ سے نیچے اترے اور درگئی میں پہنچ گئے تو پھر راستے میں لوگ کھڑے تھے۔ اور انھوں نے ہمیں پتھر مارے۔ ایک پتھر' جو ایک آدمی نے جواہر کی طرف پھینکا تھا' میں نے اپنے ہاتھ پر جھیل لیا۔ اور جواہر لال بچ گئے مگر میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی نے گندگی کی ایک ہانڈی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ہانڈی موٹر پر دے ماری۔ میں اور جواہر لال تو دونوں بچ گئے لیکن ڈاکٹر صاحب گندگی سے لت پت ہو گئے۔

ہم مصیبت سے پشاور پہنچے۔ وہ ساری مصیبت ڈاکٹر صاحب کے کارن دیکھنے کو ملی۔ اگر انہوں نے ہمیں اپنا انتظام کرنے دیا ہوتا تو ہم اپنا انتظام بڑی خوبی سے کر سکتے تھے۔ دوسرے دن ہمارے مرکز میں جلسہ تھا۔ ہم نے وہاں ایسا انتظام کیا تھا کہ حکومت کی سازش کے باوجود کسی کو اتنی جرأت نصیب نہ ہوئی کہ ہمارے یا ہمارے جلسے کے نزدیک بھی پھٹکتا۔

دوسرے دن ہم نے ڈاکٹر خان صاحب کو کہلا بھیجا کہ ہم نے اپنا انتظام کر لیا ہے ہمیں آپ کی اور آپ کی حکومت کے انتظام کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے اپنا سارا انتظام مکمل کر لیا اور میں جواہر لال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ آج بہت سے انگریز ڈاکٹر صاحب کے بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ وہ فوج کا انتظام کر رہے ہیں۔ اتنے میں خود ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آگئے میں نے انہیں کہا۔ ان انگریزوں کو اب رخصت کیجئے۔ ہمیں ان کی اور ان کی فوج کی ضرورت نہیں۔ آج ہم نے اپنا انتظام خود کیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ "جانے دیجئے' کوئی ہرج نہیں' انہیں انتظام کرنے دیجئے۔"

Marfat.com

میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا کہ میں انہیں ہرگز نہیں آنے دوں گا اور میں خود یلر چلا گیا- اور انگریزوں سے کہہ دیا کہ جب ہمیں ان کی طرف سے حفاظت اور انتظام کی ضرورت تھی تو ان لوگوں نے ہماری وہ ضرورت پوری نہ کی- آج ہمیں ان کی اور ان کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے- ہم نے اپنا انتظام خود کر لیا ہے- وہ مہربانی فرمائیں اور تشریف لے جائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں-

انگریزوں نے ملا گوری سے مل کر ہمارے خلاف سازش کر رکھی تھی- ملا گوری پیر مانکی صاحب کے مرید ہیں- انگریزوں نے انہیں کہا تھا کہ جو سڑک ستھرے سے ہو کر چار سدے کی پختہ سڑک سے نکلی ہے' اس جگہ پشاور سے انیس میل کے فاصے پر جب ہم پہنچیں تو وہ ہم پر حملہ کر دیں' لیکن ہم نے اپنا پورا انتظام کر رکھا تھا- مسلم لیگ کا ارادہ تو فساد کرنے کا تھا' لیکن انہیں جرأت نصیب نہ ہوئی- ہم نے پشاور سے اپنے مرکز سرور یاب تک سڑک کے دونوں کناروں پر خدائی خدمتگاروں کو ان کی سرخ وردیوں میں ملبوس کر کے کھڑا کر رکھا تھا اور دیہاتوں کے لوگ جنہیں ملاکنڈ کے واقع کی اطلاع مل چکی تھی وہ لوگ بھی اپنے اسلحہ جات لے کر آئے ہوئے تھے- یہ لوگ سرخ پوشوں کے عقب میں کھڑے ہوئے تھے' کیونکہ خدائی خدمتگار تو تشدد نہیں کرتے اور اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھتے' لیکن عام پٹھانوں پر تو یہ پابندی نہیں تھی- انہیں ہم سے ہمدردی تھی اور وہ ہمارے ہمدرد تھے- وہ لوگ سرخ پوش نہیں تھے- وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تشدد کرے گا تو ہم اسے تشدد کا جواب تشدد سے دیں گے-

مسلم لیگ کے کچھ لوگ فساد کرنے کی نیت سے ہمارے مرکز میں آئے بھی تھے- لیکن انہوں نے ان لوگوں (مسلح دیہاتیوں) کو دیکھا تو بھاگ گئے- مرکز میں لاکھوں لوگ آئے تھے- خدائی خدمتگاروں نے جلسے کا بہت اعلیٰ انتظام کیا تھا- جلسہ نہایت کامیاب رہا- اس جلسے میں خدائی خدمتگاروں کی طرف سے جواہر لال کو ایک سپاسنامہ دیا گیا- جواہر لال نے اس کے جواب میں تقریر کی اور اس کے بعد میں نے تقریر کی- پھر جلسہ برخاست ہوا- ہم پشاور واپس آ گئے اور دوسرے دن جواہر لال نہرو دہلی لوٹ گئے-

Marfat.com

Marfat.com

گاندھی جی کے ساتھ گزرے لمحات

۱۹۴۵ء میں جیل خانے سے باہر آیا تو اس وقت سخت بیمار تھا- میں جیل خانے میں ہمیشہ بیمار پڑ جاتا ہوں- انہیں دنوں مہاتما گاندھی بمبئی میں تھے- انہوں نے مجھے لکھا کہ میں بمبئی آ جاؤں- میں جب کبھی بمبئی یا سیواگرام جاتا تھا تو ایک رات راستے میں دہلی میں دیوداس گاندھی جی کے صاحب زادے اور راجہ جی کے داماد کے گھر ٹھہرا کرتا تھا- دیوداس کی دھرم پتنی بڑی اچھی خاطر مدارات کرتی تھی اور دیوداس کا گھر مجھے اپنے گھر کی طرح لگتا تھا- میں یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ یہ کسی غیر کا گھر ہے- میں بمبئی چلا گیا- گاندھی جی برلا کے گھر تشریف فرما تھے- میں بھی انہیں کے ساتھ ایک ہی جگہ رہنے لگا- ایک دن باتوں باتوں میں عدم تشدد کا ذکر آ گیا- میں نے انہیں کہا- "گاندھی جی! آپ نے تو بڑی مدت سے ہندوستان کو عدم تشدد کا سبق دیا ہے- لیکن مجھے بہت تھوڑا عرصے ہوا ہے کہ میں یہ سبق پٹھانوں کو دینا شروع کیا ہے- اس عدم تشدد کو پٹھانوں نے ہندوستانیوں کی نسبت جلد اور زیادہ سیکھ لیا ہے- اور آپ دیکھیں کہ ۱۹۴۲ء کی اس جنگ میں ہندوستان میں کتنا تشدد ہوا ہے، لیکن صوبہ سرحد میں انگریزوں کی طرف سے اس قدر اشتعال انگیزی اور زور ظلم کے باوجود ایک پشتون نے بھی تشدد نہیں کیا ہے- حالانکہ تشدد کا سامان بھی ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے-

اس کے جواب میں گاندھی جی نے مجھ سے کہا- "عدم تشدد بزدل آدمی کا کام نہیں ہے یہ بہادر آدمی کا کام ہے اور پشتون ہندوستانیوں سے زیادہ بہادر ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تشدد نہیں کیا ہے-"

ہریجن کالونی یا سیواگرام میں جب ہم رہتے تھے اور جب پرارتھنا کا وقت ہوتا تھا تو

Marfat.com

سب سے پہلے میں قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا۔میرے بعد ایک جاپانی بدھ مذہب کا پیروکار اپنی مناجات بیان کرتا تھا۔اور اس کے بعد ایک ہندوؤں کی پرارتھنا شروع ہوتی تھی گاندھی جی کے دل میں سب مذہبوں کے لئے یکساں احترام تھا اور وہ ان تمام مذاہب کو مبنی بر حق سمجھتے تھے۔اور یہ بھی میرا عقیدہ ہے۔قرآن اور گیتا کا مطالعہ میں نے بڑی اچھی طرح کیا ہے اور جب میں سکھوں کے ساتھ ڈیرہ غازی خان جیل میں تھا تو ان سے میں نے گرنتھ صاحب کا کافی زیادہ حصہ سنا تھا۔بدھ مذہب کے مطالعے کا مجھے بڑا شوق تھا۔کیونکہ ہم لوگ خود بھی اسلام سے پہلے بودھ تھے لیکن بدھ مذہب کی کوئی کتاب میرے ہاتھ نہیں لگ سکی۔ انجیل میں نے طالب علمی کے زمانے میں مشن ہائی اسکول میں پڑھی تھی۔کیونکہ میں اسی اسکول کا طالب علم تھا۔توریت میں نے تھوڑی بہت جیل خانے میں پڑھی تھی زرتشت کے پارسی مذہب کی کتابوں کے مطالعے کا مجھے بڑا شوق تھا۔کیونکہ وہ ہماری پٹھان قوم کا پیغمبر تھا۔ جو افغانستان میں بلخ کا رہنے والا تھا۔لیکن اس وقت تک یہ لٹریچر مجھے میسر نہ آسکا۔خورشید بہن اور بعض دیگر پارسی دوستوں کو میں نے اس لئے کہا تھا' لیکن کسی نے کوئی کتاب میرے پاس نہیں بھیجی۔"میرا مذہب سچائی' پریم پیار اور خلق خدا کی خدمت ہے۔"مذہب ہمیشہ دنیا میں اخوت اور محبت کا پیغام لے کر آتا ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں بنی نوع انسان کے لئے رواداری اور پریم پیار نہیں ہوتا اور جس آدمی کے دل میں نفرت ہوتی ہے ایسا آدمی مذہب سے بہت دور ہوتا ہے اور مذہب کی حقیقت سے بہت بے خبر ہے۔

۱۹۴۶ء میں ہندوستان میں جو فسادات شروع ہوئے تھے ان کی ابتداء مسلم لیگ نے اپنے کلکتہ کے ڈائرکٹ ایکشن سے کی تھی۔کلکتہ کے فسادات میں شروع میں تو ہندوؤں کے کچھ آدمی مارے گئے تھے' لیکن جب ہندوؤں اور سکھوں نے مسلم لیگ کی مانند تشدد کا اقدام کیا تو پھر اس جگہ کے مسلمانوں کا ناقابل بیان اور ناقابل تلافی مالی اور جانی نقصان ہوا۔ مسلم لیگ نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی غرض سے نواکھلی میں کلکتہ کا بدلہ لینے کے بہانے سے ہندوؤں پر زمین آسمان ایک کر دیا۔اور ایسے مظالم توڑے اور بے حیائی سے بھرے کام کئے کہ انسانیت نے شرم کے مارے اپنا منہ چھپا لیا۔فرنگی اپنی پالیسی "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کے مطابق ہندوؤں کو بھی اپنے جال میں لے آئے اور انہوں نے بھی نواکھلی کا بدلہ لینے کے بہانے بہار میں مسلمانوں اور غریبوں پر چنگیز اور ہلاکو کے جور و جفا کی یادیں تازہ

Marfat.com

کر دیں- مسلم لیگیوں کے دل کی مراد سر سبز ہو گئی- وہ خدا سے یہ دن مانگتے تھے-

اسی طرح کے مکروہ اور ناپاک ارادوں کے ساتھ وہ مسلم لیگی یا تو بر سر اقتدار آنا چاہتے تھے اور یا پھر ملک کے ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے تھے- اس کے لئے انہوں نے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہندوستان بھر میں فسادات کی آگ لگا دی اور اپنے ہاتھ رنگنے شروع کر دیئے- انگریز لیگیوں کی ان حرکتوں پر بڑے خوش تھے- کیونکہ ہندوستان کی ان خرمستیوں سے انگریز نوکر شاہی انگلستان کی مزدور پارٹی کی حکومت پر یہ بات واضح اور ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ درندوں کی مانند ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کا گوشت پوست ادھیڑنے کے درپے ہیں اور یہ کہ انسانوں کی طرح رہنے کا شعور کا تو ان میں بالکل فقدان ہے لہٰذا ان کے سروں پر انگریز کی حکومت کا تسلط ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں ہو گا تو یہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے-

مسلم لیگ انگریزوں کی اپنی پیداوار تھی اس لئے انہوں نے بھی صورت حال کا ناجائز فائدہ اٹھانا پسند کیا اور ملک کا امن و سلامتی مٹانے کے لئے انگریز مسلم لیگیوں کی پشت پناہ بن گئے-

میں خود بہار میں گیا تھا- پٹنہ کے ضلع میں مسلمانوں کی بڑی بھاری تباہی ہوئی تھی- اس صوبے میں جگہ بہ جگہ گھروں کو لوٹا اور برباد کیا گیا تھا اور آگ لگا دی گئی تھی اور بہت سے لوگ بھی ان میں مارے گئے تھے- میں نے جب اس علاقے کا دورہ شروع کیا اور دیہات کو دیکھا تو وہ ویران و برباد پڑے تھے اور لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور جو لوگ ان میں رہ گئے تھے وہ سب کیمپوں میں پڑے تھے، لیکن ان کی اس قدر تباہی پر بھی مسلم لیگ کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا- سو اسی طرح فرقہ وارانہ سازشوں میں لگے ہوئے تھے- انہی مظلوموں سے سیاسی استفادہ کر رہے تھے اور انہیں یہ ترغیب دے رہے تھے کہ "بنگال میں ہجرت کر جاؤ" اور میں اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ انہیں پھر ان کے اپنے آبائی گاؤں اور گھروں میں از سر نو آباد کر دوں، لیکن مسلم لیگیوں نے ایسے تن پر چڑھا لیا ہوا تھا کہ میری باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی- اسلئے میں مسلم لیگیوں کے لیڈروں کے پاس گیا- یہ لوگ محمد یونس بیرسٹر کے ایک عالیشان مکان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور جب کبھی میں ان کے ہاں گیا ہوں تو وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہوتے تھے-

Marfat.com

میں نے انہیں کہا۔ "میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت ہو چکی ہے 'اب 'ان غریبوں کو معاف کر دو۔ جو تباہی ان کی ہو چکی ہے کیا یہ کم تباہی ہے۔؟ اگر آپ لوگ انہیں بنگال میں ہجرت کر جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور حقیقی معنوں میں انہیں وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر انہیں اپنی سیاسی اغراض کے آلہ کار بنانا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ لوگ کافی تباہ ہو چکے ہے انہیں زیادہ برباد نہ کریں۔"

لیکن ان مسلم لیگیوں کے دل میں رحم کہاں تھا۔ انہوں نے انہیں بھاریوں کو بنگال کی طرف بھجوا دیا۔ برسات کا موسم قریب تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ برسات شروع ہونے سے پہلے ان کے مکانات تیار ہو جائیں اور یہ لوگ اپنے گاؤں میں آباد ہو جائیں 'لیکن مسلم لیگیوں نے میرے ساتھ اس بات میں اتفاق نہ کیا' کیونکہ وہ لوگ آبادی کے لئے تو ہیں نہیں وہ تو بربادی چاہتے ہیں 'جو مسلمان بنگال گئے ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہوئی۔ کچھ تو راستے ہی میں مر گئے تھے اور کچھ بنگال میں جا کر مر گئے اور جو باقی بچ گئے وہ واپس پٹنہ آ گئے۔ اب ان کے دماغ قدرے ٹھکانے آ گئے تھے اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ مسلم لیگی ان کے لئے کچھ کرتے کراتے تو ہیں نہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کی امداد مہیا نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں

بہت سے ایسے مسلمان جنہوں نے زمین میں اپنے مال دفن کئے تھے چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ان کے ساتھ جا کر ان کا مال زمین سے نکالنے میں ان کی مدد اور رہنمائی کرے 'لیکن مسلم لیگی توڑ کے مارے پٹنہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ صرف میں ہی واحد آدمی تھا جو انہیں ان کے دیہات میں لے جاتا تھا اور وہ اپنے دفنے زمینوں سے نکال لیتے تھے۔ الغرض میں نے یہ کام بخوبی ان کے ساتھ سرانجام دے دیا اور کسی نے بھی کوئی تعرض نہ کیا اور نہ ہی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی کسی کو میری موجودگی میں انہیں چھیڑنے کی جرات ہوئی۔ بڑی تکالیف اور مصائب کے بعد یہ لوگ میرے پاس آئے۔ اور مجھے کہا کہ برسات آنے والی ہے۔ اگر میں حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں مکانات بنوا دوں تو وہ اپنے اپنے گھروں اور گاؤں میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے حکومت سے

Marfat.com

کہہ دیا اور حکومت نے فوراً ان کی آبادکاری کے لئے حکم جاری کر دیا۔ اور کلوؤں میں گھر بننے شروع ہو گئے۔

برسات قریب تھی کام ہو رہا تھا اور بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام پا رہا تھا۔ لیکن میرا خیال تھا کہ اگر مہاتما جی بہار آجائیں تو یہ کام اور بھی تیز رفتاری سے ہونے لگے گا اور برسات شروع ہونے تک تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس لئے میں نے گاندھی جی کو لکھا۔ وہ ان دنوں نواکھلی میں تھے کیونکہ وہاں بھی بڑی بربادی ہوئی تھی۔ مہاتما جی میرا خط دیکھتے ہی بہار میں آگئے اور علاقے کا دورہ شروع کر دیا اور مسلمانوں کی بڑے حوصلہ افزائی اور دلجوئی کی۔ ان کو ہر طرح تسلی دی۔ ان کے آنے سے کام بھی بڑے زور شور سے جاری ہو گیا۔ سردولا بہن بھی گاندھی جی کے ہمراہ تھیں اور وہ اس وقت مہاتما جی کی سکریٹری تھیں۔ انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی، جس کی وجہ سے میں ان کا ابھی تک شکر گزار ہوں۔ اور اس جگہ ہی میرا سردولا سے باپ و بیٹی کا اچھا رشتہ قائم ہوا۔ جسے ہم دونوں ابھی تک نبھا رہے ہیں۔

بہار کے بعد پنجاب اور سرحد کی باری آگئی، جہاں بہار کا بدلہ لینے کی غرض سے مسلم لیگیوں نے نہ صرف ہندوؤں اور سکھوں پر زمین و آسمان تنگ کر دیا تھا۔ بلکہ ہمارے صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگاروں کی آئینی حکومت کو ختم کرنے کی غرض سے غیر آئینی سر گرمیاں اور غنڈہ گردی شروع کر دی۔ میں اس موقع پر بہار کے مصیبت زدہ اور مظلوم مسلمانوں کی امداد و خدمت کے لئے بہار میں تھا۔

Marfat.com

Marfat.com

ڈاکٹر خان کی حکومت کے خلاف مسلم لیگ کی سازش

صوبہ سرحد کی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع تھا- پنجاب میں ملتان' امرتسر' انبالہ' راولپنڈی اور گجرات و گوجرانوالہ وغیرہ مقامات پر فسادات ہوئے -ان کے شعلے پشاور میں بھی آ پہنچے - حملوں اور بد کلامیوں کے ذریعے مسلم لیگیوں نے ڈاکٹر خان صاحب سے مستعفی ہونے کے مطالبے کرنے اور نعرے لگانے شروع کر دیئے -انہوں نے پشاور کے بازاروں اور گلیوں میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا- ضلع ہزارہ کی ایک ہندو لڑکی کو حاصل کرنے کے لئے "لیکی سول نافرمانی" بھی شروع ہو گئی -ڈاکٹر صاحب کی وزارت کو ٹھوس اکثریت حاصل ہونے کی وجہ سے ہٹا دینا تو ان کے بس کا روگ نہیں تھا -انہوں نے بدمعاشی اور غنڈہ گردی کے طریقے اور راستے اختیار کر لئے- مرکزی عبوری حکومت میں جواہر لال اور دیگر کانگریسی وزیروں کا مسلم لیگ کے عدم تعاون کی وجہ سے ناک میں دم آ چکا تھا- حتی کہ کانگریس خلاف توقع ملک کی تقسیم کا مطالبہ منظور کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئی اور جس وقت ۳ جون ۱۹۴۷ء کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے تقسیم کا اعلان ہوا اور کانگریس اور مسلم لیگ نے دستوری طور پر پاکستان کو تسلیم کر لیا تو ڈاکٹر خان صاحب نے تمام مسلم لیگیوں کو جیل خانوں سے رہا کر دیا اور ویسے بھی انگریزوں نے جیل خانے میں مسلم لیگیوں کے لئے کلب گھر بنا رکھے تھے- صوبہ سرحد کی جیلوں کے اکثر قیدی راتیں اپنے گھروں میں گزارتے تھے اور اکثر کھلے بندوں بازاروں میں گھوما پھرا کرتے تھے-

کانگریس کی حکومت برائے نام ہی تھی -ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سرکاری افسران اور انگریز مطلق تعاون نہیں کرتے تھے- لیکن ہندوؤں کو اس وزارت سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ انگریز گورنر کی مکمل تائید اس وجہ سے نہیں کر سکتا تھا کہ ڈاکٹر خان صاحب اس میں

Marfat.com

سد راہ تھے ساتھ ہی یہ بھی درست ہے کہ گورنر بھی ڈاکٹر خان صاحب کے راستے میں رکاوٹ تھا اور وہ اسے ہندوؤں کے پوری پوری حفاظت نہیں کرنے دیتا تھا- لیکن گورنر اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان اختلاف اور ڈاکٹر صاحب کی پٹھان سپرٹ اقلیتوں کی حفاظت کا موجب تھی-

بعض انگریز پرست 'ٹوڈی ہندو انگریزوں اور مسلم لیگیوں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے ایسے حالات میں مطالبہ کر رہے تھے کہ خدائی خدمتگاروں کی وزارت کو ہٹا دیا جائے- اور صوبہ میں گورنری راج قائم کر دیا جائے وہ گورنر کیر جو ہندوؤں کا کٹر دشمن اور مسلم لیگیوں کا یار غار تھا اور یہ لال بجھکڑ اپنے مطالبے کی حمایت میں یہ دلیل دیتے تھے کہ کانگریس وزارت یعنی خدائی خدمتگاروں کی حکومت ہماری حفاظت کے اہل نہیں ہے- لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑا چلا رہے ہیں-

بریں عقل و دانش بباید گریست

پشاور شہر کے بازار بند تھے- ہندو سکھ اپنے گھروں میں قید تھے- باہر نکلنا محال تھا اور گھروں میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کی عزت اور مال و دولت محفوظ نہیں تھے اس موقع پر دس ہزار خدائی خدمتگار بلوردی ہندوؤں کی حفاظت کے لئے پشاور پہنچ گئے اور ان کے آتے ہی ہندو اور سکھ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور دوکانیں کھول کر اپنا کام دھندا شروع کر دیا -ان کی جان و مال محفوظ ہو چکے تھے اور عین اسی طرح جہاں جہاں خدائی خدمتگار تھے وہاں ہندوؤں کا مال 'جان اور عزت محفوظ تھی- کیونکہ خدائی خدمتگار دن رات ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کے لئے پہرہ دیتے تھے-

پھر الیکشن کے وقت مسلم لیگ نے صوبہ سرحد میں پروپیگنڈے کے لئے ایک پنجابی لو بھیجا تھا- جس کا نام میجر خورشید تھا- یہ اپنی بد عملی کی وجہ سے فوج سے موقوف کیا گیا تھا- اسے اس غرض اور مطلب کے لئے بھیجا گیا تھا کہ وہ پٹھانوں میں خانہ جنگی پیدا کر دے- وہ پشاور کے مسلم لیگیوں میں اس قسم کی تقریریں کیا کرتا تھا' جو تشدد آمیز جذبات سے بھری ہوتی تھیں اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو چند آدمی کانگریسی لیڈر ہیں اور قوم میں اثر رسوخ رکھتے ہیں انہیں قتل کر دینا چاہئے اور ایسے لوگ پیدا کرنے چاہئیں کہ جنہیں ہم دس دس بیس

Marfat.com

ہیں ہزار روپے دے دیں تاکہ وہ ان آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں' کیونکہ ان کی موت کے بغیر ہمارا راستہ صاف نہیں ہو سکتا۔

اس کی ان تقریروں کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائینگے۔ اور خدائی خدمتگاروں کا اگر ایک رہنما بھی مار دیا جائے گا تو چونکہ قوم کی ہمدردیاں ان کے خدائی خدمتگاروں کے ساتھ ہیں' اس لئے بدلہ لینے کے لئے ضروری ہے کہ قوم مسلم لیگ کے لیڈروں کو قتل کرے گی۔ اور اس طرح یہ لوگ اپنے گھر میں باہمی فساد اور جنگ و جدل میں مصروف ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائینگے۔ میجر خورشید صرف ہمیں ہی برباد کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ ساری پختون قوم کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔

جب ہمارے لوگوں کو خورشید کے ان ارادوں یا اسکیم کا علم ہوا تو انہوں نے خدائی خدمتگاروں کی حفاظت کے لئے ایک نئی جماعت بنالی جس کا نام " حکمی پشتون " تھا اور اس میں وہ نوجوان شامل تھے جو کا عقیدہ عدم تشدد پر مبنی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اسی غرض یہ جماعت بنائی تھی کہ خدائی خدمتگار تو تشدد نہیں کرتے اور ان کا عقیدہ عدم تشدد پر مبنی ہے اور ان کے خلاف پر تشدد سازشیں چل رہی ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ خدائی خدمتگاروں کی حفاظت کریں گے اس جماعت کے مقابلے میں مسلم لیگ نے غازی پختون کے نام سے جماعت بنالی۔ لیکن ساری قوم " حکمی پشتون " کی پشت پر تھی۔ چند خوانین اور ملک وغیرہ' جو انگریزوں کے ریزہ چین تھے' مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر میجر خورشید کی بات پر عمل کرتے ہیں تو ایک بھی زندہ نہیں بچے گا' اس لئے انہیں میجر خورشید کے پروگرام پر عمل کی جرأت نہ ہو سکی۔ میجر خورشید کو پنجابیوں نے پٹھانوں کی بربادی کے لئے بھیجا تھا۔ لیکن وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔

Marfat.com

Marfat.com

تقسیم ہند کے مسلے پر کانگرس کا رویہ

کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا- میں اس میں شمولیت کے لئے دہلی گیا تھا- اس کمیٹی میں ہندوستان کی تقسیم کا سوال زیر بحث تھا- میں اور گاندھی جی تقسیم ہند کے مخالف تھے - دوسرے ممبروں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا- کیونکہ میں نے اس وقت تک ان سے کچھ نہیں سنا تھا- لیکن سردار پٹیل اور راج گوپال اچاریہ تقسیم کے حق میں تھے اور اس بارے میں انہوں نے بڑا زور لگایا تھا- دوسری بات صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کا سوال تھا- میں اور گاندھی جی دونوں ریفرنڈم کے بھی مخالف تھے- میں کہتا تھا کہ ریفرنڈم کی کوئی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے سوال پر ہمارے صوبہ کا لیکشن ہوا ہے اور وہ الیکشن ہم نے بڑی بھاری اکثریت سے مسلم لیگ سے جیتا ہے اور اسے ابھی تک ایک سال بھی نہیں ہوا ہے-

سردار پٹیل اور راج گوپال اچاریہ اس نظریئے کے مخالف تھے اور ریفرنڈم کے حق میں تھے اور اسی لئے انہوں نے ورکنگ کمیٹی میں بہت زور لگایا تھا اور دلائل پیش کر رہے تھے- جب ورکنگ کمیٹی نے ان کی بات تسلیم کر لی اور ملک کی تقسیم اور ہمارا ریفرنڈم دونوں باتیں منظور کر لیں- اس وقت میں نے ورکنگ کمیٹی اور گاندھی جی سے کہا کہ ہم پٹھان لوگ آپ لوگوں کے ساتھی ہیں اور ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لئے بڑی قربانیاں کی ہیں- لیکن آپ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے- اور بھیڑیوں کے سپرد کر دیا ہے ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے سوال پر الیکشن لڑا تھا اور ہم نے وہ بڑی بھری اکثریت سے جیتا تھا اور اس سے ساری دنیا پر پختونوں کی رائے روشن ہو گئی تھی- اس وجہ سے ہم ریفرنڈم نہیں چاہتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہندوستان نے چھوڑ دیا ہے پھر ہم ہندوستان اور پاکستان کے سوال پر ریفرینڈم کیوں کریں-

کانگریس کی اس کمزوری سے ہمارے لوگ ہندوستان سے بڑے سخت مایوس ہو گئے -اس لئے ہم نے کہا کہ اگر مسلم لیگ ہمارے ساتھ ریفرنڈم کرنا چاہتی ہے تو پھر

Marfat.com

"پختونستان اور پاکستان" کے سوال پر کرے-افسوس مجھے اس بات پر تھا کہ ہم نے تو کانگریس کو نہ چھوڑا لیکن کانگریسیوں نے ہمیں چھوڑ دیا-اگر ہم کانگریس کو چھوڑتے تو انگریز ہمیں سب کچھ دیتا تھا-اور میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اگر کانگریس نے اس بات پر زور دیا ہوتا -مضبوطی سے ڈٹی رہتی' جس طرح کہ وہ گورداسپور کے سوال پر اڑ گئی تھی-اور جس طرح کہ جناح نے وہ بات ان کی مان لی تھی تو یہ بھی مان جاتے-ہماری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ گاندھی جی اس دنیا سے چلے گئے-اگر وہ ہوتے تو ضرور ہماری امداد کرتے-جواہر لال سے بھی ہمیں بڑی توقعات تھیں اور وہ بہت کچھ کر بھی سکتے تھے لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کیوں ہمارے لئے کچھ بھی نہ کیا؟-

جس وقت ورکنگ کمیٹی نے ہندوستان کی تقسیم اور صوبہ سرحد کے ریفرینڈم کا فیصلہ کر لیا تو یہ میرے لئے فیصلہ مرگ تھا-میں حیران و پریشان بیٹھا ہوا تھا-مولانا آزاد میری بغل میں بیٹھے ہوئے تھے-مولانا نے مجھ سے کہا کہ "تمہیں چاہئے کہ اب تم مسلم لیگ میں داخل ہو جاؤ-" مجھے افسوس ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہوں کہ مولانا صاحب کس خیال سے مجھے یہ مشورہ دے رہے تھے-کیونکہ مسلم لیگ سے میرا اور مولانا کا اختلاف نظریاتی اور اصولی تھا اور اس وقت تک مسلم لیگ کی پالیسی میں ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی کہ میرے یا مولانا کے لئے اس میں شامل ہو جانے کا جواز پیدا ہوتا-مسلم لیگ تخریب کے لئے کام کر رہی تھی اور میں نے ساری عمر تعمیر کے لئے وقف کی ہے-مولانا کا یہ مشورہ اگر کہیں درست بھی تھا تو مناسب ہوتا کہ اگر وہ چند سال پہلے ایسا مشورہ دینے میں بخل سے کام نہ لیتے-بہر حال مجھ پر اس مشورے نے کوئی اچھا اثر نہ کیا کیونکہ میں عقیدوں کے مسائل کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلنا نہیں جانتا اور نہ ہی میرا ملک اور میری ملت گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اچھا سمجھتی ہے جس وقت احرار جماعت مجلس احرار اسلام پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ میں داخل ہوئی تھی تو لیاقت علی نے انہیں سخت ذلیل کر کے مسلم لیگ سے باہر نکال دیا تھا-

ایک بات مولانا نے اپنی کتاب میں لکھی ہے-"کلکتہ میں مجھ سے ملنے کے لئے کچھ پٹھان آئے تھے-جب میں نے چائے کے ساتھ پٹھانوں کو بسکٹ پیش کئے تو ان پٹھانوں نے کہا کہ "یہ چیز تو ہم نے کبھی نہیں کھائی ہے-ڈاکٹر خان صاحب اور بابا خان کھاتے تھے' لیکن وہ ہمیں نہیں دیتے تھے-"

Marfat.com

مولانا صاحب بہت دفعہ سرحد آئے تھے اور انہوں نے میری طبیعت خصلت و عادت اور پٹھانوں کی مہمان نوازی بھی دیکھی تھی اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ ہمارے اندر کس قدر مساوات ہے۔ پٹھانوں میں اتنی غربت نہیں ہے کہ انہوں نے بسکٹ دیکھا نہ ہو' یا کھایا نہ ہو' ہم تو مہمان کی بات چھوڑیئے' اپنے نوکروں کے ساتھ روٹی اور چائے ایک ہی جگہ کھاتے پیتے ہیں۔ اور جو کچھ خود کھاتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ بات بڑی معیوب ہے کہ چائے پیتے جاؤ' بسکٹ کھاتے جاؤ۔ اور اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو اسے نہ دو۔ اس لئے میں نہیں جانتا کہ مولانا صاحب کے پاس کون اور کس قسم کے لوگ گئے تھے۔

مولانا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے۔ "ڈاکٹر خان صاحب اور بابا خان کانگریس فنڈ اپنے صوبہ میں خرچ کرنے کی بجائے مرکز کو واپس کر دیا کرتے تھے۔" اور بقول مولانا یہ کفایت شعاری ہمارے اثر و رسوخ کے کم ہو جانے یعنی گھٹ جانے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔

خدائی خدمتگار تحریک دوسری تحریکوں کی طرح صرف سیاسی تحریک نہیں ہے۔ یہ سیاسی بھی ہے' مجلسی بھی ہے۔ اور اقتصادی اور اصلاحی بھی ہے۔ اخلاقی اور روحانی بھی ہے۔ خدائی خدمتگار اپنی قوم اور ملک کی خدمت خدا کے واسطے کرتا ہے۔ حتی کہ وہ اپنی وردی بھی اپنے پیسوں سے بناتا ہے ہم نے کبھی کانگریس سے پیسے نہیں لئے ہیں۔ اگر کانگریس نے پیسے دیئے ہوں گے تو پارلیمنٹری بورڈ کو دیئے ہوں گے اور ہم لوگ قومی فنڈ کو بے جا استعمال کرنا خدا کے نزدیک جرم سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری تحریک کا رسوخ کم ہوتا تو پاکستان کے اس قدر تشدد' جبر اور استبداد' اتنے ظلم' اتنے توہین آمیز سلوک' یہاں تک کہ آئے دن جان لیوا گولیوں کا نشانہ بننے کے باوجود ہزاروں لوگ کس طرح جیل خانوں میں جاتے اور جیلوں میں سختیاں اور شرمناک زندگی صبر و شکر سے کیوں گزارتے؟ کاش! مولانا صاحب اس قسم کی ایک بھی مثال کسی دوسری جماعت سے متعلق ہمیں بتاتے۔

خیر میں خوش ہوں کہ مولانا صاحب اس طرح سے دنیا کے سامنے ایک حقیقت تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کانگریس سے پیسے کبھی نہیں کھائے ہیں۔ اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ ایک مشترکہ نصب العین کے واسطے کام کرنا تھا۔ اور کچھ نہیں ---------- مولانا صاحب کا یہ نکتہ کہ ہم کانگریس کے یہ پیسے کانگریس کو واپس کر دیا کرتے تھے میری طرف سے ایک وضاحت طلب کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک کبھی ان پیسوں کی

Marfat.com

دست نگر نہیں رہی۔ یہ پیسے اگر دیئے ہوں گے تو پارلیمنٹری بورڈ کو دیئے گئے ہوں گے رہا یہ سوال کہ ان پیسوں کا نہ خرچ کرنا بقول مولانا ہمارے اثر و رسوخ میں کمی کا باعث ہوا۔ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا صاحب نے تقسیم سے قبل ہماری طاقت کا اندازہ کیا تھا کہ خدائی خدمتگار تحریک جب خلاف قانون نہیں ہوئی تھی تو وہ ہمیشہ الیکشن میں جیت حاصل کرتی تھی اور حکومت اپنے ہاتھوں میں لیتی رہی تھے۔ تقسیم کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہوا، جس سے کہ مولانا ہمارے زور یا کمزوری کا جائزہ لیتے اور کسی نتیجے پر پہنچتے یا کوئی نتیجہ اخذ کرتے۔

میں بہت شکر گزار رہوں گا اگر پاکستان میں پھر آزاد رائے شماری ہو جائے۔ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ قوم اور ملک کس راستے پر اور کس کے پیچھے چل رہا ہے۔

میرا سارا مجادلہ بھی اسی کے لئے جاری ہے۔ البتہ اگر مولانا صاحب یا اور کسی کو الیکشن کے بغیر کسی اور دلیل کی ضرورت ہو تو میں عرض کروں گا کہ یہ ہزاروں لوگوں کا گلنا سڑنا، سینکڑوں کا مارا جانا، ملک چھوڑ کر چلے جانا اور ان کی جائیدادوں کی ضبطی کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یہ مجھے جیل خانے میں رکھا جانا کس واسطے ہے؟ اگر میرا یا میری سیاسی پارٹی کا اثر و رسوخ نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت ہم سے ڈرتی کیوں ہے؟ اور مجھے کیوں جیل خانوں میں بند کرتی ہے۔؟

Marfat.com

قیام پاکستان کے بعد داستان اسیری

بٹوارہ ہو چکا تو میں نے کہا- اب جب کہ پاکستان بن چکا ہے اور کانگریس اور مسلم لیگ نے تقسیم مان لی ہے تو میں اور میری پارٹی بغیر کسی قسم کا حصہ مانگے ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں- میری قوم پاکستان کی شہری اور وفادار ہے اور ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں پورا حصہ ادا کریں گے' لیکن پاکستانی حکومت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور الٹا مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں تعمیر کی آڑ میں تخریب چاہتا ہوں لہٰذا مجھے گرفتار کر لیا گیا- مجھ پر قبائلیوں سے ساز باز کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا- اسی جرم میں میرے بیٹے ولی خاں کو بھی پکڑ لیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر خان صاحب اور عبدالغنی بھی گرفتار کر لئے گئے- بغیر کسی دلیل کے مجھے تین برس کی سزا دیدی گئی-

قید کی معیاد تین سال گزرنے کے بعد مجھے کوہاٹ کے ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کیا گیا ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے نیک چلنی کی ضمانت طلب کر لی- میں نے اس ضمانت طلبی کی وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں- جب میں نے اس بات کا ثبوت مانگا تو وہ کہنے لگے کہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں- تب میں نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا جس پر انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور مجھے تین برس قید بامشقت کی سزا دی اور منٹگمری جیل میں بھجوا دیا گیا-' جہاں میں نے اپنی سزا کے دن کاٹے' مجھے سزا میں وہ رعایت بھی نہ دی گئی جو جیل کی طرف سے ہوتی ہے اور جب میں پوری سزا بھگت چکا تو ۱۸۱۸ء ریگولیشن کے تحت مجھے پھر نظر بند کر دیا گیا- اور اس طرح جنوری ۱۹۵۴ء سے قبل مجھے رہائی نصیب ہوئی اور جب رہائی ملی تو وہ بھی برائے نام- میری گرفتاریوں کا سلسلہ برابر جاری رہا- اور اس طرح پندرہ برس تک مجھے پاکستانی جیلوں میں رہنا پڑا-

Marfat.com

جونہی پاکستان کی حکومت وجود میں آئی تو بغیر کسی قسم کی تقصیر کے ہم پر ایسے ایسے مظالم توڑنے شروع کر دیئے جو کالے فرنگیوں کے عہد حکومت میں بھی ہم پر نہ رکھے گئے تھے فرنگیوں نے ہمارے گھروں کو نہیں لوٹا تھا لیکن پاکستان کی اسلامی حکومت نے لوٹ لئے۔ فرنگی کے عہد میں اخبار اور جلسے بند نہیں کئے گئے تھے' لیکن پاکستان کی اسلامی حکومت نے بند کر دیئے۔ فرنگی کی حکومت پختونوں کی عورتوں کی بے عزتی نہیں کرتی تھی' پاکستان کی اسلامی حکومت نے یہ بھی کیا۔ ان سب باتوں کا ذکر چھوڑیئے۔ اس حکومت نے تو مظالم کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ جس وقت چارسدہ میں پٹھان مرد و زن جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اپنے گرفتار شدہ بھائیوں کے لئے دعائیں مانگنے جا رہے تھے اور اپنے سروں پر "قرآن" رکھ کر مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کی اسلامی حکومت کے مشین گن چلانے والے سپاہیوں نے پٹھان مردوں و عورتوں کے سینے اور خدا کے قرآن پر گولیاں چلا کر انہیں چھلنی کر دیا۔

ٹھیک اسی طرح جیل میں جو سلوک انگریزی حکومت ہمارے ساتھ روا رکھتی تھی اس کے مقابلے میں اس اسلامی حکومت نے ہمارے ساتھ دس گنا زیادہ برا سلوک روا رکھا۔ پاکستانی حکومت نے مجھے ہمیشہ جیل کی ایسی کوٹھری یا ایسی بارک میں رکھا جس کی روشنی بھی رات کو گل کر دی جاتی تھی۔ حیدر آباد جیل میں تو مجھے تنہائی میں رکھا گیا اور کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جیل آب و ہوا میرے موافق نہ تھی' بلکہ مضر تھی وہاں میں بیمار ہو گیا مجھے گردے کی خرابی کی شکایت پیدا ہو گئی' جس سے میرے پاؤں خراب ہو گئے' لیکن جیلر نے جو پنجابی مسلمان تھا میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور برائے نام غلط ملط دوائیں دیتا رہا۔ آخر مجھے لاہور جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں بھی بیماری بڑھتی گئی۔ یہاں سے منٹگمری جیل بھجوا دیا گیا۔ اور کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ وہاں بھی بیماری نے میرا ساتھ نہ چھوڑا اور میری صحت روز بروز گرتی ہی گئی۔

میں نے انگریزوں کی جیل میں پندرہ برس کاٹے اور پاکستان کی اسلامی حکومت میں بھی پندرہ برس قید میں گزارے۔ پاکستان کی سرکار کی طرف سے مجھے سزائے قید جرمانے کے ساتھ ہوتی تھی۔ میری جائیداد کا ایک حصہ صرف پندرہ ہزار روپے جرمانے کے عوض میں پاکستانی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا حالانکہ اس کی اصل قیمت پچاس ہزار سے بھی

Marfat.com

زیادہ تھی-انگریز حکومت اگر ظلم کرتی تھی تو وہ ہماری دشمن تھی-ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا تھا- لیکن اس پاکستان کی اسلامی حکومت کو میں سمجھ نہیں سکا کہ کس جرم کی پاداش میں اس نے مجھے اور ہزاروں دیگر خدائی خدمتگاروں کو قید و بند میں ڈالا-

میرے نزدیک پاکستان سے دوستی ممکن ہی نہیں 'کیونکہ پاکستان کی بنیاد نفرت پر رکھی گئی ہے-پاکستان کی گھٹی میں نفرت 'بغض و حسد' کینہ و دشمنی اور حقارت کے جذبات بھرے پڑے ہیں-پاکستان کی تشکیل انگریزوں کی مرہون منت ہے پاکستان انگریزوں نے اس لئے بنایا کہ زندگی بھر کے لئے ہندو اور مسلمانوں میں فسادات ہوتے رہیں-

ختم شد

Marfat.com

Marfat.com

اظہار تعزیت

ہم اصول پرست سیاست کے بانی جناب خان عبدالغفار خان کے عظیم جانشین محترم خان عبدالولی خان رہنما عوامی نیشنل پارٹی کی وفات پر گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ (آمین)

ہم محترمہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ محترم سینیٹر اسفندیار ولی خان صاحب، محترم سنگین خان صاحب، محترم شاہی سید صاحب صدر اے این پی (سندھ)، محترم فرید طوفان صاحب، محترم یاسین افتخار حسین صاحب اور مرحوم کے دیگر اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

دعاگو: (علامہ) عبدالستار عاصم

مرکزی چیئرمین القلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل 1 ایبٹ روڈ لاہور

0333-4393422

رانا تنویر حسین سابق ایم این اے

سکندر شہباز بوچ (مرکزی نائب صدر پاکستان ڈی بوچ کلب انٹرنیشنل)

Marfat.com

ذخیرہ

اظہار تشکر

ہم پوری قوم کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے

خان عبدالولی خان

رہبر اے این پی

کی وفات پر اظہار افسوس کیا ہم سب کے بے حد مشکور ہیں

سوگواران

بیگم نسیم ولی خان ، سینٹر اسفندیار ولی خان

شاہی سید صدر اے این پی (سندھ) ، فرید طوفان

میاں افتخار حسین و کارکنان عوامی نیشنل پارٹی (پاکستان)

ولی باغ چارسدہ پشاور

Marfat.com

Marfat.com

فکشن ہاؤس
18- مزنگ روڈ لاہور

Marfat.com